

مسلمان  
سپہ سالار اور فاتح

حصہ دوم

سید محمد نصیر جامعی

DATA ENTERED

احسن برادرزچوک انارکلی لاہور

رجملہ حقوق محفوظا

اشاعتِ اول

تعدادِ اشاعت

۱۰۰۰

دو روپے

قیمت

۱۹۵۳ء

مارچ

۱۳۳۲ھ

۵۰۲

شیخ محمد نصیر ممالوی پرنٹر پبلشر نے اتحاد پریس بل روڈ لاہور میں  
چھپوا کر احسن برادرز چوک انارکلی لاہور سے شائع کیا

# فہرست

۵	صفحہ	دیباچہ
۷	"	یوسف بن تاشقین، ایک افریقی مجاہد
۲۱	"	سلطان صلاح الدین، فاتح بیت المقدس
۴۷	"	سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ
۶۵	"	سلطان سلیمان اعظم، فاتح ہنگری
۷۹	"	خیر الدین باربروسہ، امیر البحر
۹۵	"	اورنگ زیب عالمگیر، فاتح جنوبی ہند
۱۱۵	"	سلطان ٹیپو، شیر میسور
۱۲۹	"	انور پاشا، غازی اور مجاہد
۱۴۵	"	کمال اتاترک، نجات دہندہ ترکی



## پہلے حصہ

اس کتاب کا مقصد پہلے حصہ کے شروع میں بیان ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا اس حصہ میں آٹھ سپہ سالاروں اور فاتحوں کے حالات درج کئے گئے ہیں۔ دوسرے حصہ میں نو کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں میں بے شمار جہانمازا اور بہادر گزرسے ہیں جن کے نام اگرچہ اس قدر مشہور نہیں ہیں مگر جن کے کارنامے نظر انداز نہیں کئے جاسکتے۔ انہوں نے دنیا کو جہادِ نبویؐ کے ایسے ایسے مناظر دکھائے جن کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ارادہ ہے کہ ان کے سوانح حیات بھی کسی وقت قلم بند کرائے جائیں۔ اسلام ایک زندہ قوت ہے اور اس نے مسلمانوں میں جہاد کا ایک ایسا ولولہ پیدا کر دیا ہے جو کسی وقت فنا نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے اب بھی ہماری قوم میں ایسے نوجوان موجود ہوں جو کسی وقت کوئی ایسا کارنامہ نہ دیکھائیں کہ ان کا نام بھی تاریخ کے اوراق میں سنہری حروفوں میں لکھا جائے۔

ہم نے اس امر کی پوری کوشش کی ہے کہ کتاب کی زبان سادہ اور پیرایہ  
 بیان دلچسپ ہو۔ حالات اگرچہ مختصر طور سے بیان کئے گئے ہیں مگر کوئی ضروری  
 بات نہیں چھوڑی گئی۔ ہم پھر اس امید کا اعادہ کرتے ہیں جو پہلے حصہ میں کرائے  
 کہ ہمیں چاہئے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں بہادری اور جرات پیدا کریں اور ان بزرگوں  
 کے نقش قدم پر چلنے کی سعی کریں۔

سید نصیر احمد

یوسف بن یوسف

انقرضی مجاہد





## یوسف بن تاشین

آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے اندلس فتح کیا تھا۔ اس فتح کے بعد مسلمان ایک عرصہ تک وہاں بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے رہے۔ انہوں نے وہاں بڑی شاندار عمارتیں بنوائیں، انہوں نے شہر بسائے، خوب صورت باغ لگوائے، سکول اور کالج قائم کئے۔ غرض ناک کی بہتری کے لئے جو کچھ ہو سکتا تھا، کیا۔ وہاں مسلمانوں نے علم و ہنر میں اتنی شہرت حاصل کی کہ نہ صرف اسلامی بلکہ یورپ کے ناکوں سے بھی طلباء وہاں پڑھنے آتے تھے۔ یورپ نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا، اور بعد میں انہوں نے جو ترقی کی، وہ اندلس کے مسلمانوں کے طفیل ہی کی۔

لیکن ایک عرصہ کے بعد ایسی شہرت حالات پیدا ہو گئی کہ مسلمانوں

میں اتفاق نہ رہا۔ وہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندلس میں کئی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اگر ان حکومتوں کے بادشاہ اپنی رعایا کو اپنے ملک کی بھلائی میں لگے رہتے، تو کوئی بڑی بات نہ تھی۔ مگر وہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اس وقت یہاں مسلمانوں کی ریاستیں قائم ہو گئی تھیں، ان میں غرناطہ، طلیطلہ، اشبیلیہ اور المیریا کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ مگر جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، ان میں نام کو بھی اتفاق نہ تھا، بلکہ ان کے حکمراں ایک دوسرے کو برباد کرنے پر تہمتیں لگاتے۔ ان کا سب سے بڑا دشمن قسطلہ کا عیسائی بادشاہ الفانسوشم تھا۔ یہ نہایت چالاک اور عیار بادشاہ تھا، اور اس نے مسلمانوں کی نا اتفاقیوں اور خانہ جنگیوں سے فائدہ اٹھا کر بڑی قوت حاصل کر لی تھی۔ یہاں تک کہ کئی مسلمان ریاستوں سے خراج تک وصول کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنی قوت حاصل کر لی کہ مسلمانوں کے کئی علاقے پھین لئے مسلمان بہاں کہیں بھی آباد تھے قتل ہوتے جا رہے تھے۔ مسلمان بادشاہوں کو اتنی توفیق نہ تھی، کہ مل کر دشمن کا مقابلہ کرتے۔ اگرچہ چند روز تک یہی حالت اور رہتی تو اندلس کے مسلمان یقیناً تباہ ہو جاتے۔ مگر ابھی قدرت کو کچھ دلوں اور مسلمانوں کی لاج رکھنا منظور تھی۔ عین موقع پر ایک شخص ان کی مدد کو آیا اور دشمن کے ارادے ناکام کر دیئے۔ یہ شخص افریقہ کا بادشاہ

یوسف بن تاشفین تھا۔ اس بادشاہ میں بڑی خوبیاں تھیں۔ وہ بڑا پرہیزگار اور  
 نیک تھا، اور ساتھ ہی بہت بڑا سیاستدان بہادر اور جبری بھی تھا۔

جب اندلس کے مسلمانوں نے دیکھا، کہ وہ چاروں طرف سے  
 ایک خوفناک مصیبت میں گہرے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یوسف بن تاشفین  
 سے مدد کی درخواست کرنی چاہئے۔ ایشبیلیہ کے بادشاہ معتمد کو بھی اس کا  
 حساس ہوا۔ اس لئے کہ الفانسو اس کے ملک پر حملہ کرنے کی بڑے زور  
 شور سے تیاری کر رہا تھا۔ آخر اندلس کے مسلمانوں کا ایک وفد یوسف بن تاشفین  
 کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں اندلس کے شہروں کے بڑے  
 بڑے عالم، فقیہ اور سیاست دان شامل تھے۔ انہوں نے افریقہ کے  
 بادشاہ کے سامنے نہایت واضح طور سے اندلس کے مسلمانوں کی پریشانیوں  
 اور تکلیفوں کی تصویر کھینچ کر رکھ دی۔ یوسف بن تاشفین نے یہ روبرو  
 سنی، تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر  
 قسم کھائی کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا بدلہ دشمن سے ضرور لے گا۔  
 وفد کے لوگ خوشی خوشی اندلس واپس آ گئے۔

بادشاہ یوسف نے تلوار پر ہاتھ رکھ کر جو قسم کھائی تھی اسے پورا کیا۔ سب  
 سے پہلے اس نے جہاد کی نام منادی کرانی، اور دیکھتے دیکھتے ملک کے  
 چاروں طرف سے کئی سو مجاہد پانچ تھنت میں جمع ہو گئے۔ اس کے پاس صرف

سو جہاز تھے۔ ان جہازوں میں جتنی فوج بکھی جاسکتی تھی وہ جزیرۃ الخضر  
 میں بھیج دی گئی۔ جب یہ خالی جہاز واپس آئے، تو دوسری بار پانچ ہزار فوج  
 وہاں پہنچ گئی۔ اس طرح فوج کی کل تعداد سترہ ہزار تھی۔ جب یوسف  
 جزیرۃ الخضر سے ایشیلیہ کی طرف روانہ ہوا، تو ہر جگہ بڑی شان سے اس  
 کی آؤ بھگت ہوئی۔ ایشیلیہ کے دروازہ پر معتمد نے اس کا عظیم الشان  
 استقبال کیا۔ یوسف شہر سے باہر ہی ٹھہرا کیونکہ اسے خوب علم تھا کہ شہر  
 ٹھہرنے سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ افریقہ  
 کا بادشاہ ان کے شہر پر قبضہ کر بیٹھا ہے۔ مصلحت یہی تھی، کہ وہ باہر ہی  
 ٹھہرے اور اپنا کام ختم کر کے وطن لوٹ جائے۔ معتمد نے بادشاہ کے  
 اعزاز میں ایک بہت بڑی دعوت دی اور اس کے سپاہیوں کو بہت  
 سے تحفے تحائف دیئے۔ جب ساری فوجیں اکٹھی ہو گئیں، تو ان کی تعداد  
 بیس ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ اس فوج کو لے کر یوسف آگے بڑھا۔  
 جب الفانسو کو یہ اطلاع ملی، تو وہ سرسوطہ کے محاصرہ میں مشغول تھا۔  
 اس نے محاصرہ کو چھوڑا اور اپنی ریاست کے تمام سرداروں کو حکم دیا کہ  
 وہ اپنی اپنی فوج لے کر طلیطلہ میں پہنچ جائیں۔ طلیطلہ میں جب عیسائی  
 فوجیں جمع ہوئیں، تو ان کی کل تعداد ساٹھ ہزار تھی۔ ان میں کئی ہزار فریسی  
 بھی تھے۔ الفانسو زلاقہ کی طرف بڑھا جہاں یوسف بن تاشفین بھی پہنچ گیا تھا۔

زلاقہ کے میدان میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل آئیں۔  
 سب سے پہلے یوسف بن تاشغین نے الفانسو کو پیغام بھیجا کہ وہ مسلمان ہو  
 جائے یا جزیہ دینا منظور کر لے۔ الفانسو نے جواب دیا کہ اندلس کے تمام  
 بادشاہ مجھ کو خراج دیتے ہیں۔ میں تمہاری کسی بات کو قبول نہیں کرتا۔ میرے  
 اس ایسی زبردست فوج ہے، جو تمہیں تباہ کر دے گی۔ جب یوسف کے  
 اس یہ جواب پہنچا تو اس نے اس کے نیچے صرف ایک سطر لکھی، کہ جو کچھ  
 ہونے والا ہے اُسے تم خود دیکھ سکو گے۔

اب فریقین کی فوجیں اس قدر قریب تھیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ  
 سکتی تھیں۔ مسلمان فوجوں میں اندلسی فوج آگے بھٹی، اور یوسف کی فوج  
 پیچھے پہاڑیوں میں رکھی گئی تھی۔ اس زمانے کی رسم کے مطابق سوموار کا دن  
 جنگ شروع ہونے کے لئے مقرر کیا گیا۔ یوسف نے اس پر کسی قسم کا  
 نہ کیا۔ لیکن مستمدا الفانسو سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عیسائی  
 بادشاہ بڑے وفادار بددیانت ہے۔ وہ ضرور وضو کا دوسے گا، اور مقررہ دن  
 سے پہلے ہی جنگ شروع کر دے گا۔ لہذا مستمدا نے بڑی احتیاط سے  
 کام لیا۔ دوہرے دوہرے پہرے لگائے، اور پہرہ داروں کو حکم دیا کہ  
 اگر دشمن کی فوج ذرا سی بھی حرکت کرے، تو اس کی فوراً اطلاع دیں۔ سپاہیوں  
 کو حکم تھا کہ وہ ہتھیار لگا کر سوئیں۔ یہ احتیاطیں کچھ بے وجہ نہ تھیں۔ اس

جنگ پر ان کے مستقبل کا انحصار تھا۔ دشمن کو ان پر بڑی فوقیت حاصل تھی  
 عیسائیوں کی تعداد ساٹھ ہزار تھی، اور مسلمانوں کی کل بیس ہزار یعنی تین  
 عیسائیوں کے مقابلہ میں ایک مسلمان۔ عیسائیوں کے گھوڑے بھی مسلمانوں  
 سے زیادہ قوی تھے، اور ان کے ہتھیار زیادہ اچھے اور بوجھل تھے۔ پھر  
 عیسائی پادری اپنے پرجوش و عظوں سے سپاہیوں کے دل بڑھانے  
 رہتے تھے۔ انہوں نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کی سی اہمیت دے  
 تھی۔ دوسری طرف معتمد بڑا بے چین تھا۔ لیکن یوسف بن تاشفین کو  
 کامیابی پر پورا بھروسہ تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ مقررہ دن  
 پہلے ہی عیسائیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور پہلے ہی حملہ میں عیسائی  
 دُور تک آگے بڑھ گئے۔ اس کے باوجود یوسف کی فوج نے ذرا بھی حرکت  
 نہیں کی۔ اس نے ایک ایسی جنگی تدبیر سوچی تھی، جس کے کامیاب ہونے  
 کا اسے پورا یقین تھا۔ گھوڑی دیر کے بعد امیر یوسف نے اپنی فوج کو حرکت  
 کا حکم دیا۔ اور الفانسو کی فوج پر پیچھے کی طرف سے ہلہ بول دیا۔ یہ حملہ  
 بڑے زوروں کا تھا۔ الفانسو کے سپاہی اس کی تاب نہ لاسکے۔  
 کی ان میں ہزاروں کے ٹکڑے اڑ گئے۔ خمیوں میں آگ لگ گئی عیسائیوں  
 نے جب یہ دیکھا کہ ان کا تمام سامان جل گیا ہے، اور جو کچھ بچا تھا، اسے  
 لوٹ لیا گیا ہے، تو ان میں بڑی بددلی پھیل گئی۔ شام ہونے تک عیسائی

کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اور وہ میدان سے بھاگ اُٹھے۔ بیس ہزار سے زیادہ  
 وہیں مارے گئے۔ ان کی قسمت اچھی تھی، کہ رات ہو گئی، ورنہ شاید ایک  
 سپاہی بھی زندہ نہ بچتا۔ خود الفانسو بڑی طرح زخمی ہوا تھا۔ مگر وہ کسی نہ  
 کسی طرح سے بچ نکلا۔ دوسرے دن صبح کو جب یوسف نے میدان جنگ  
 کو دیکھا، تو ہر طرف عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اور  
 مال غنیمت جگہ جگہ بکھرا پڑا تھا۔ امیر یوسف نے سارا مال غنیمت معتمد  
 اور اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دیا۔

یہ بہت بڑی فتح تھی، جو ایک عرصہ کے بعد اندلس میں مسلمانوں  
 کو عیسائیوں پر حاصل ہوئی۔ اس فتح سے عیسائیوں کی طاقت کو بے حد  
 نقصان پہنچا۔ امیر یوسف آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہی رہا تھا کہ اسے اپنے  
 جوان بیٹے کی موت کی خبر ملی۔ اُسے اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت تھی۔  
 اُس نے آگے بڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور تین ہزار سپاہی معتمد کے  
 پاس چھوڑ کر اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔

اس فتح کا تھوڑے عرصہ تک تو کافی اثر رہا۔ مگر اس کے بعد عیسائیوں  
 نے پھر ہاتھ پیر نکالنے شروع کر دیئے۔ انہوں نے حصن اللیط کو اپنا مرکز  
 بنایا۔ یہاں سے وہ اردگرد کے علاقوں پر حملہ کرتے، بستیوں کو لوٹتے،  
 اور جلا دیتے، اور مردوں کو بے دریغ قتل کر ڈالتے۔ مسلمان بادشاہ یہ سب

کچھ دیکھتے اور ٹس سے مس نہ ہوتے۔ انہیں عیش و عشرت اور رنگ رلیوں  
 سے فرصت ہی کب تھی۔ اندلس کے لوگوں نے ایک بار پھر امیر یوسف بن  
 کی خدمت میں ایک وفد بھیجا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ اسے  
 اندلس کے لوگوں سے پوری ہمدردی تھی، ان کی پریشانی اس کی اپنی  
 پریشانی اور ان کی تکلیف اس کی اپنی تکلیف تھی۔ مگر وہ اندلس کے بادشاہوں  
 کی مرضی کے بغیر وہاں جانا نہ چاہتا تھا۔ اس نے وفد سے کہا کہ میں تمہاری  
 مدد کرنے کو تیار ہوں، مگر اپنے بادشاہوں سے کہو کہ وہ مجھے بلائیں۔ وفد  
 کے اراکین نے اس کی اطلاع بادشاہوں کو پہنچائی۔ چنانچہ معتد خود اثر  
 گیا، اور امیر یوسف سے امداد کی التجا کی۔ ایک بار پھر یوسف اندلس پہنچا  
 اشبیلیہ کے باہر پھر اس کا استقبال ہوا۔ وہیں تمام بادشاہوں کی فوجیں  
 اس کے پاس آگئیں اور وہ انہیں ساتھ لے کر حصن اللیظ کی طرف بڑھا  
 جہاں عیسائی اُس کے آنے کی خبر سن کر قلعہ بند ہو گئے تھے۔ امیر یوسف  
 نے وہاں کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کی دیواریں بڑی مضبوط تھیں۔ چار ماہ  
 محاصرہ رہا مگر ذرا بھی کامیابی نہ ہوئی۔ امیر یوسف کو دن رات اس کی  
 فکر تھی کہ یہ قلعہ کیسے سر کیا جائے۔ مگر دوسری طرف جو بادشاہ آئے تھے،  
 ان کی عجیب حالت تھی۔ وہ ہستور رنگ رلیاں منارہے تھے۔ ان کی  
 موفلوں میں دن رات یا تو مٹنی اپنے کمال کا مظاہرہ کرتے یا شاعر اپنے



اشعار سے ان کا دل خوش کرتے تھے۔ شراب نوشی کی مست عام تھی۔ اندلس کے لوگ جب یہ دیکھتے کہ ان کے بادشاہ ہر قسم کے عیب میں مبتلا ہیں۔ اور افریقہ کا بادشاہ کتنا پرہیزگار کتنا نیک اور کتنا بہادر ہے، تو ان کی عجیب حالت ہو جاتی۔ آخر ایک دن انہوں نے امیر یوسف سے درخواست کی کہ وہ اندلس ہی میں رہ جائے۔ یہاں کا بادشاہ بن جائے۔ اس میں اندلس کی بھلائی ہے۔ امیر یوسف نے یہ سنا تو اس کے دل میں ایک عجیب کشمکش پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا مسلمانوں کے بقا کی صورت اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے؟ انہی دنوں غرناطہ کا قاضی ابو جعفر اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ غرناطہ کا بادشاہ کتنا ظالم اور عیاش ہے۔ غوام اس کے خلاف ہیں، اس لئے وہ غوام کی مدد کرے۔

امیر یوسف اندلس کے بادشاہوں کے طرز عمل سے سحت بدول ہو گیا تھا۔ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر رہے۔ وہ اپنی فوج لے کر الگ ہو گیا، اس وقت تک حصن اللیطی کی غنیمت دیواریں آدھی سے زیادہ ٹوٹ چکی تھیں، اور بارہ ہزار سپاہیوں میں سے گیارہ ہزار نو سو سپاہی بچ سکے، اور پلوں مجاہد ۵۵ متعصب پورا ہو چکا تھا۔ اس اثنا میں خبر آئی کہ الفانسو حصن اللیطی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو نہی بہت اور اس کے ساتھیوں نے یہ خبر سنی وہاں سے بھاگ

گئے۔ جب الفانسو نے حصن اللیط کی یہ حالت دیکھی تو اسے بے حد افسوس  
 ہوا، اور اٹھے قدم واپس ہوا۔ وہ جس راہ سے آیا تھا امیر یوسف اس  
 انتظار میں تھا۔ الفانسو نے جب یہ سنا تو اس نے اپنا راستہ بدل دیا  
 اور اس طرح امیر یوسف کے ہاتھوں زنج نکلا۔

جیسا کہ اوپر بتا آئے ہیں۔ غرناطہ کے قاضی نے امیر یوسف سے  
 درخواست کی تھی کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کی ان کے بادشاہ کے خلاف  
 مدد کرے۔ امیر یوسف نے یہ درخواست منظور کر لی، اور غرناطہ جا کر  
 وہاں کے بادشاہ کو تخت سے عاجز کر دیا۔ اور پھر عوام کے اصرار سے  
 غرناطہ کی بادشاہت خود قبول کر لی۔

اس کے محوڑے عرصہ بعد امیر یوسف کے پاس اندلس کے مسلمانوں  
 کا ایک محضر پہنچا، جس میں لکھا تھا کہ اندلس کے بادشاہ عیش و عشرت میں  
 غرق ہیں، اور خلافت شریعت کام کرتے رہتے ہیں۔ لہذا امیر یوسف خود اندلس  
 کی بادشاہت سنبھال لے۔ اس میں اندلس اور اس کے باشندوں کی  
 بہتری ہے۔ جب یہ محضر امیر یوسف کو ملا تو اس نے اسے افریقہ کے  
 عالموں اور فقیہوں کے پاس بھیج دیا اور ان سے فتویٰ لیا کہ آیا شریعت  
 کی رو سے ایسا کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ جب سارے عالموں اور فقیہوں  
 نے فتویٰ دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو یوسف نے اندلس میں اپنی فوجوں کے

نام حکم جاری کر دیا کہ اندلس کے تمام بادشاہوں کے علاقوں کو ان سے چھین لیا جائے۔ تھوڑی مدت میں المرسیہ، طرف اور قرطبہ پر قبضہ ہو گیا پھر ایشیلیہ کی باری آئی۔ اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ الفالسیہ نے ایک بڑی فوج جمع کر کے مدد کے لئے بھیجی۔ لیکن امیر یوسف کی فوج نے اُسے بڑی طرح شکست دی اور اس کے تھوڑے دنوں بعد ایشیلیہ بھی فتح ہو گیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ سارے اسلامی علاقے امیر یوسف کے قبضہ میں آ گئے۔

ایک عرصہ کے بعد اندلس میں پھر خوش حالی اور فارغ البالی کا زور آیا۔ زناہنگی کے ہر شعبہ میں ترقی ہونے لگی۔ ظلم اور تشدد کا نام نہ رہ گیا۔ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو گئی۔ ہر فیصلہ قرآن اور سنت رسول کی روشنی میں ہونے لگا۔ کوئی بات شریعت کے مخالف نہ ہوتی۔ امیر یوسف نے فوجی مسائل کے علاوہ باقی سارے کام علماء کے سپرد کر دیئے تھے۔ بادشاہ اور اس کے امیروں کا اثر عوام پر ضرور پڑتا ہے۔ اپنے بادشاہ کو دیکھ کر عوام بھی نیک اور پارسا بن گئے اور ہر قسم کی برائیاں ختم ہو گئیں۔

امیر یوسف بن تاشفین کی سلطنت کا قیام اتنا ہو گیا تھا جتنا کہ بنی امیہ اور بنو عباس دونوں کی سلطنتوں کا مل کر ہوتا ہے۔ تمام شمالی افریقہ میں ٹیونس سے لے کر بحر اطلانتک تک اس کا سکہ چلتا تھا۔ ہر جہتہ کو کم از کم تین لاکھ مسجدوں کے منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، اور نہ معلوم کتنے

کہ وہ مسلمان اس کی بقائے دولت کے لئے دعائیں مانگتے تھے۔ یہ بادشاہ  
 اس کو اپنا شہنشاہ تسلیم کرتے تھے۔ رعایا کو اتنا آرام پہلے کبھی نہ پہنچا تھا۔  
 اتنی ارضانی انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ روٹی کی قیمت برائے نام رہ گئی  
 تھی۔ سستی بھرتی کاری اور میوے چند کوڑیوں میں مل جاتے تھے۔ رعایا کے  
 بیش تر حصے پر فضول بالکل معاف تھا۔ امیر لیسٹ نے عمر بھی بڑھی لمبی پائی۔  
 وہ ایک سو سال زندہ رہا۔ اس کی تمام عمر کام کرتے ہی گزری۔ مسلمانوں کی  
 بھلائی اور بہتری کے لئے اس نے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ ان عیبوں میں  
 نہیں پڑا جو انسان کے جسم کو کھوکھلا اور دل کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس نے  
 اپنی زندگی میں کسی مجرم کی سزائے موت کے حکم پر دستخط نہیں کئے، اور کبھی  
 کوئی کام ایسا نہیں جس سے اس کے نام پر دھبہ لگا ہو۔

سُلطان صلاح الدین

رفیق خیریت المقدس

۲۲۲۲

## سُلطان صلاح الدین

”خدا کی راہ میں لڑنا اس کا ایک نبی مذہب تھا۔  
 اس کا دل ہمیشہ اسی میں لپٹا رہتا، اور اسی میں  
 جان و تن کھپا دیا۔ اور تین آخری برسوں میں تو  
 سوائے ہماؤ کے کوئی اور خیال دل میں گزرتا ہی  
 نہ تھا۔ سوائے اس مضمون کے اور کسی مضمون پر  
 بات نہ کرتا۔ ہر عیش و آرام اور بالی بچوں میں  
 رہنے کی خوشی کو اس خدمت پر قربان کر رکھا تھا  
 ایک دن اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ مریوں  
 میں سب سے شاندار موت کون سی ہے؟ وہ بہت  
 نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں جان دینا سب سے

بہتر موت ہے۔ کہنے لگا۔ اسی شاندار موت کے

دروازے کی طرف ہمیں جا رہا ہوں۔“

آپ جانتے ہیں خدا کی راہ میں جہاد کا یہ شوقین اور اس شاندار موت

کا یہ خواہش مند کون تھا۔ یہ سرفروش اسلام کا نامور مجاہد سلطان صلاح الدین

ایوبی تھا۔ ایسا مجاہد جس کو نہ صرف مسلمان محبت سے یاد کرتے ہیں بلکہ اس کے

دشمن بھی اس کا نام عزت اور ادب کے نیتے ہیں۔

صلاح الدین کمروں کے ایک بہت بڑے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔

اس کے دادا کا نام شادی تھا۔ شادی کے دو بیٹے تھے۔ ایوب نجم الدین اور

شیر کوہ۔ وہ زمانہ قسمت آزمائی کا تھا۔ چنانچہ شادی اپنے دونوں بیٹوں کو

نے کروطن سے نکلا اور بغداد پہنچا۔ وہاں سے کچھ عرصہ کے بعد تکریت میں جا

بسا۔ تکریت اس وقت کافی اہم قلعہ تھا۔ شادی کے انتقال کے بعد نجم الدین

اور شیر کوہ تکریت سے چل کر موصل کے حاکم عماد الدین زنگی کے پاس پہنچے

اس زمانے میں مسلمانون کی کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔

ان میں سے موصل کی ریاست کافی بڑی تھی، اور یہاں کا حاکم بڑا نیک اور

بہادر تھا۔ اس نے قلعہ بعلبک کی حفاظت کا انتظام نجم الدین کے سپرد کر

دیا۔ عماد الدین کے قتل کے بعد نجم الدین نے دمشق کے سلطان کی ملازمت

قبول کر لی، اور اس کا بھائی شیر کوہ عماد الدین کے بیٹے نور الدین کی موت



ہیں جا پہنچا۔ جو اس وقت حلب کا والی تھا :

سلطان صلاح الدین کی پیدائش اُس رات ہوئی، جب اُس کا باپ نجم الدین تکریت سے نکل کر عماد الدین زنگی کے پاس جا رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب دمشق فتح کیا، تو نجم الدین نے بھی اس کی ملازمت اختیار کر لی۔ صلاح الدین کی عمر اس وقت سولہ برس کی تھی۔ باپ اور چچا دونوں کے ساتھ اس نے بھی سلطان نور الدین کی خدمت میں جانا شروع کر دیا۔ نور الدین نے اُسے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ نوجوان ذہین اور مجتہد ہے۔ وہ اپنے غامد و بارہویوں سے سلطان الدین کی زیادہ عزت کرتا۔ صلاح الدین نے بھی دیکھ لیا، کہ اُس کے آقا ہیں کس قدر خوبیاں ہیں۔ وہ شریف ہے، عالی حوصلہ ہے، نیک و ہمدرد اور بڑا دلیر اور بہادر ہے۔ اُس نے بھی کوشش کی کہ ان خوبیوں کو اپنے اندر جذب کر لے۔ ہمیں صلاح الدین کے بچپن کے حالات کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ سہرا اتنا کہا جاسکتا ہے کہ اُسے دینیات، تاریخ اور فقہ کے مطالعہ کا بڑا شوق تھا۔ شاعری سے بھی عشق تھا۔ اُس نے کئی استادوں کی شاکردی اختیار کی تھی۔ مگر اس کا سب سے بڑا استاد نور الدین زنگی تھا :

وہ فطرتاً ثنائی پسند تھا۔ سلطان نور الدین نے کئی بڑی بڑی لڑائیاں لڑیں، جن میں شیرکوہ برابر شریک رہا۔ مگر ہم صلاح الدین کا نام کہیں نہیں

پڑھتے۔ سب سے پہلی جنگ جس میں وہ شامل ہوا، وہ ہے جب شیر کوہ نے  
 مصر پر حملہ کیا۔ یہ واقعہ ۶۴۱ء کا ہے۔ اس وقت مصر پر خلیفہ العاصم کی  
 حکومت تھی۔ مگر وہ کمزور اور دوسروں کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بنا ہوا تھا پھر  
 عیسائی وہاں حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سلطان نور الدین کے لئے  
 جو عیسائیوں کو اپنے ملک سے نکلانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ ضروری تھا  
 کہ اس کا مصر پر قبضہ ہو جاتا۔ اُسے اس کوشش میں کامیابی ہوئی۔ شیر کوہ  
 یہاں کا وزیرِ اعظم مقرر ہوا۔ اور اس کے انتقال کے بعد یہ عہدہ صلاح الدین  
 کے ہاتھ آیا۔

سلطان نور الدین کے بر اقتدار آنے سے پہلے عباسی خلافت  
 جس کا وہ بدبگھی دور دور تک پھیلا ہوا تھا، کمزور ہو چکی تھی اور کئی حصوں  
 میں بٹ گئی تھی۔ عیسائی جو مسلمانوں کے پڑانے دشمن تھے، اس موقع  
 کی تاک میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا آپس میں اتفاق نہیں  
 ہے، اور وہ غیر منظم ہیں، تو انہوں نے ایک دم ایشیائے کوچک پر حملہ  
 کر دیا۔ اور فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے ملک شام تک آ پہنچے۔ اور  
 بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے یہاں چار ریاستیں قائم کیں  
 رہا، النطاکیہ، طرابلس اور بیت المقدس۔ بیت المقدس کی فتح سے  
 مسلمانوں کو بڑا سخت دھکا لگا۔ تاریخ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ان

روائیوں کو صلیبی لڑائیاں کہتے ہیں۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی۔ بیت المقدس  
 کا حاکم گاڈ فرے کو مقرر کیا گیا، اور باقی تینوں ریاستیں بھی اس کے ماتحت  
 کر دی گئیں۔ مگر مسلمانوں کی یہ شکست عارضی تھی۔ عیسائیوں کے اس حملے  
 سے اسلامی دنیا کے ستون بل گئے تھے مگر گے نہیں تھے۔ مسلمانوں کو  
 یقین تھا کہ خدا کا کوئی بندہ ضرور اٹھے گا، اور انہیں متحد کر کے عیسائیوں  
 کو اسلامی سرزمین سے باہر نکال دے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ کئی اللہ کے  
 شیر پیدا ہوئے جنہوں نے عیسائیوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ ان  
 میں پہلا نمبر محمد بن زکی کا ہے، جس نے ۱۱۴۲ء میں عیسائیوں کو  
 شکست دے کر ان کی ریاست رہا پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد  
 سلطان نور الدین اٹھا، جس نے اپنی ساری زندگی جہاد کے لئے وقف  
 کر دی۔ رہا کی شکست کے بعد عیسائیوں نے دوسری جنگ صلیبی کی تیاریاں  
 شروع کر دی تھیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس میں یورپ کے  
 بڑے بڑے بادشاہ اپنی فوجیں بھیجتے تھے، اور عیسائیوں کا وہی پیشوا  
 پوپ بھی ان کی پوری مدد کرتا تھا۔ چنانچہ دوسری صلیبی جنگ کے لئے بھی  
 انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا۔ مگر سلطان نور الدین نے  
 ان کی ایک نہ چلنے دی۔ اس نے عیسائیوں کا طرفان پیچھے کی طرف ہٹا  
 دیا۔ ایک طرف اس نے ایک شیرازستان سلطنت قائم کر دی اور دوسری

طرف صلیبیوں کو روک کر ان کی فتوحات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ سلطان کی وفات  
 ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس میں بے شمار خوبیاں تھیں۔ وہ واقعی خدا  
 کی راہ میں مجاہد تھا۔ مؤرخ لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین، اور حضرت  
 عمر بن عبدالعزیز کے سوا کوئی اور بہتر فرماں روا ان کی نظر سے نہیں گزرا۔  
 سلطان نور الدین کی وفات پر عیسائیوں میں بڑی خوشیاں منائی

گئیں۔ انہوں نے اپنی کوششیں پھر سے شروع کر دیں۔ چنانچہ شام  
 سے ان کی فوجیں حرکت میں آئیں، اور دمشق کے قریب پہنچ گئیں۔ یہاں  
 نور الدین کے بیٹے اور ان کے وزیر کمزور تھے۔ انہوں نے صلح کر لی۔

اس سے عیسائیوں کے حوصلے اور بڑھ گئے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا  
 کہ سب سے پہلے مصر پر حملہ کر کے اسے ختم کر دینا چاہئے۔ چنانچہ انہوں نے  
 ایک بڑا جنگی بیڑا جس میں ۲۸۲ جہاز تھے جمع کیا، اور مصر کی بندرگاہ  
 اسکندریہ پر دھاوا بول دیا۔ صلاح الدین نے جو وہاں کا وزیر اعظم اور  
 مختار گل تھا، یہ خبر سنی تو عجلت سے ایک لشکر وہاں بھیج دیا۔ عیسائیوں کو  
 شکست ہوئی، اور ان کے کئی جہاز سمندر میں ڈوب گئے۔

سلطان نور الدین کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں  
 نے الگ الگ حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ اسکندریہ کے واقعہ کے بعد  
 صلاح الدین کو اس بات کا سختی سے احساس ہوا کہ جب تک وہ ساری

ریاستوں کو ایک کر کے ان کا اندرونی انتظام ٹھیک نہیں کرے گا اس  
 وقت تک عیسائیوں کے مقابلے میں کامیابی شکل ہوگی۔ مگر وقت یہ تھی  
 کہ کئی ریاستوں کے حاکم اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اکثر  
 دشمن سے بھی مل جاتے تھے۔ اس لئے صلاح الدین کو مجبور ہو کر انہیں  
 اپنے قبضہ میں کرنا پڑا کسی کو ڈانٹا پٹ بنائی اور کسی سے مروت کا سلوک  
 کیا۔ ۱۱۹۳ء سے ۱۱۹۸ء تک یعنی تقریباً ۵ سال اسی کوشش میں مشغول  
 ہوئے۔ یہ نہیں کہ اس عرصہ میں عیسائیوں کے ساتھ اس کی ایک لڑائی  
 بھی نہ ہوئی ہو۔ اس عرصہ میں کئی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں جن میں کبھی  
 صلاح الدین کو فتح ہوئی اور کبھی عیسائیوں کو۔ مگر صلاح الدین نے اس کی  
 طرف کوئی زیادہ توجہ نہ دی۔ اس کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ایک مضبوط حکومت  
 قائم کی جائے اور مدافعت و حفاظت کا پورا پورا انتظام کیا جائے۔ اس  
 مقصد میں بالآخر وہ کامیاب ہوا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑی سلطنت  
 قائم کر لی۔ اس کی حدیں جنوب میں سوڈان کی آخری سرحد تک، مغرب  
 میں برقہ تک، شمال میں آرمینیا تک اور مشرق میں جزیرہ اورموسل تک  
 پہنچتی تھیں۔ اب وہ سلطان صلاح الدین تھا۔ اوسر دشمنوں میں طرابلس  
 کا حاکم ریجنڈر اللقی اور بہادر تھا۔ کرک کا والی رجبی نالڈ بھی بڑا دلیر تھا۔ مگر  
 اس میں خرابی یہ تھی کہ خواہ مخواہ لڑائی مول لیتا تھا۔ اور معاہدوں کی پابندی

نہیں کرتا تھا ۔

سلطان صلاح الدین کو خون بہانے کا شوق نہیں تھا ۔ مگر وہ مجبور تھا ۔ حالات ایسے تھے کہ اس کے لئے لڑنا ضروری تھا ۔ جب وہ ہر طرف سے مضبوط ہو گیا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ عیسائیوں کو بحر روم کے دوسرے کنارے پر جسے وہ عبور کر کے آئے تھے ادھکیل دے ۔ دوسری طرف عیسائی اس کوشش میں تھے کہ اپنے اس نئے دشمن کو گھل کر رکھ دیں ۔ ان کی راجی نالڈ پیش پیش تھا ۔ اس میں اور سلطان صلاح الدین میں چار سال لے یعنی ۱۱۸۴ء سے ۱۱۸۸ء تک عارضی صلح ہو چکی تھی ۔ مگر راجی نالڈ اور عارضی صلح سے اکتا چکا تھا ۔ چنانچہ اس نے معاہدہ کے خلاف ایک قافلہ جو کرک کے قریب سے گزر رہا تھا، لوٹ لیا ۔ بہت سے لوگ قید ہو گئے اور کئی قتل کر دیئے گئے ۔ صلاح الدین کو اس کی اطلاع ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے قسم کھائی کہ اگر راجی نالڈ کبھی اس کے ہاتھ آیا، تو اسے ہاتھوں سے قتل کرے گا ۔

۱۱۸۷ء کی گرمیوں میں سلطان نے جہاد کی عام مناوی کرادی اور اپنے ماتحت حاکموں اور بادشاہوں کو حکم دیا، کہ اپنا اپنا لشکر لے کر اس کے پاس پہنچ جائیں ۔ چند دنوں میں ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا ۔ اور عیسائیوں نے بھی خوب تیاریاں کر لی تھیں ۔ پچاس ہزار عیسائی حضور پر

مشہور شہر میں مسلمانوں کے مقابلے کے لئے جمع ہوئے :

سلطان نے صفوریہ کا رخ کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ اور وہ اکثر لڑائیوں کے لئے جمعہ کا مبارک دن ہی پسند کیا کرتا تھا۔ راستہ میں عیسائیوں کا ایک مرکز طبریہ پڑتا تھا۔ مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا، مگر طبریہ کا قلعہ فتح نہ کر سکے۔ جب عیسائیوں نے سنا کہ طبریہ کا شہران کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو وہ صفوریہ سے قلعہ والوں کی مدد کو روانہ ہوئے۔ اور صہر صلاح الدین نے بھی پھرتی سے طبریہ کو چھوڑ کر دشمن کا رخ کیا۔ لشکر کو پانی کے کنارے اتارا، اور اس کے سامنے پانی کے جو جوہڑ تھے، وہ سب خشک کر دئیے۔ بڑی شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ عیسائیوں کو پانی کی بڑی دشواری پیش آئی۔ مگر وہ کسی نہ کسی طرح اسلامی لشکر کے قریب پہنچ کر ٹھہر گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے کچھ رات خدا کی عبادت اور کچھ آرام میں گزار لی، اور صلاح الدین نے انہیں ضروری ہدایات اور حکام دئے۔ دوسرے روز عیسائیوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح پانی تک پہنچا جائے۔ صلاح الدین کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ایسی کوشش ہوگی۔ چنانچہ اس نے انہیں ناکام بنانے کی مٹھان لی۔ اس نے چتر سے دلا کر ان کو ایک دائرے میں جکڑ لیا۔ اس دائرے سے نکلنا بہت دشوار تھا۔ انہوں نے لڑ پھڑ کر بحیرہ طبریہ کی طرف نکل جانا چاہا۔ لیکن صلاح الدین خود سامنے آکر

جگم گیا۔ عیسائیوں نے بھی پورا زور صرف کر دیا۔ بڑی بڑی تیاریاں ہوئی  
 صلاح الدین فوج کے ہر حصہ میں جا کر سپاہیوں کو جوش دلاتا اور انہیں  
 ضروری ہدایتیں دیتا تھا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت  
 نہیں ہے، تو انہوں نے آخری مقابلے کے لئے جان کی بازی لگ دی  
 ان کے لگاتار حملوں سے مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ مگر ہر  
 حملہ میں عیسائیوں کی کافی تعداد قتل ہو جاتی تھی۔ اور ان کی قوت برابر  
 گھٹتی جاتی تھی۔ آخر مسلمانوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے  
 کوہِ حنین کی پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن سرخورد سے راستہ بند تھا۔  
 بہت تھوڑی سی فوج کوہِ حنین کی سمت جا سکی۔ مسلمانوں نے چاروں  
 طرف سے حملہ کر کے مقدس صلیب کو جو حضرت مسیح کی سونے کی شمشیر کی بنیادی  
 تھی، چھین لیا۔ اس سے عیسائیوں میں بڑی بے چینی پھیل گئی اور انہوں نے  
 نے مقابلہ کی آخری کوشش کی۔ مگر وہ مسلمانوں کے حمزہ کو نہ روک سکے۔  
 مسلمان بڑھتے ہوئے شاہِ بیت المقدس کوئی کے خیمہ تک جا پہنچے، اور اس  
 کو گرا دیا۔ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ ان کی قوت بالکل جواب دے چکی ہے  
 اور جنگ جاری رکھنے میں موت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے، تو انہوں نے  
 ہتھیار ڈال دیئے۔ مسلمانوں نے بادشاہِ کانی، ریکی، تالڈ اور کئی بڑے بڑے  
 اہیروں کو گرفتار کر لیا۔ قیدیوں کی یہ کثرت تھی کہ ان پر نظر پڑتی تو خیال کر



کہ سارا عیسائی لشکر بکھڑا گیا ہے۔ ادھر میدان جنگ میں پڑی ہوئی لاشیں نظر آئیں تو اندازہ ہوتا کہ زندہ کوئی نہیں بچا ہوگا۔

جنگ ختم ہونے کے بعد معزز قبیلہ ہی سلطان کے سامنے پیش کئے گئے۔ بادشاہ گائی کو اس نے اپنے پہلو میں جگہ دی۔ باقی امیروں کو بھی ان کے رتبہ کے مطابق بٹھایا۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے قسم کھانی تھی کہ اگر ریچی نالڈ اس کے قبضہ میں آیا، تو اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ چنانچہ پہلے اس نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اس کے انکار کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کا سر اڑا کر اپنی قسم پوری کی۔ ریچی نالڈ کا انجام دیکھ کر گائی ڈر گیا۔ سلطان نے اس کو اطمینان دلایا، اور کہا: "بادشاہوں کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ دوسرے بادشاہ کو قتل کریں۔ ریچی نالڈ کو تو خود اپنی زیادتیوں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔"

حطین کی شکست سے عیسائیوں کی قوت بہت کمزور پڑ گئی۔ اسلامی فوجوں نے حطین کی فتح کے بعد صرف ایک دن آرام کیا، اور پھر ایک زبردست سیلاب کی طسج ملک میں پھیلنا شروع کر دیا۔ اسب ان فوجوں کے لئے اتنا کافی تھا کہ وہ کسی شہر کے سامنے آئیں، اور اس کی دیواریں گر پڑیں اور شہر کی فوج اپنے ہتھیار ڈال دے۔ صرف چند مضبوط قلعے ایسے تھے

جنہوں نے کچھ ہمت کی۔ لیکن ان میں سے بھی کوئی قلعہ ایسا نہ تھا۔  
 نے ایک ہفتہ سے زیادہ مقابلہ کیا ہو۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے  
 پر قبضہ کیا گیا۔ پھر فلسطین کی بندرگاہ اور تجارت کی منڈی عکا پر حملہ  
 وہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی۔ سلطان نے انہیں  
 دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو عکا ہی میں رہیں، اور اگر چاہیں، تو اپنا  
 لے کر نکل جائیں۔ عکا کی جامع مسجد کو عیسائیوں نے گر جا بنا لیا تھا۔  
 سو سال بعد سلطان صلاح الدین نے پھر اسے مسجد بنایا، اور یہاں جمعہ کی  
 ادا کی۔ اس کے بعد کئی اور چھوٹے چھوٹے شہر فتح ہوئے، اور ان کے  
 فلسطین کے خوبصورت اور مضبوط شہر بیروت پر قبضہ کر لیا گیا۔ بیروت  
 بعد ساحلی شہروں میں صور اور عسقلان دو بڑے شہر رہ گئے تھے۔ صور  
 کو زید تھا، اور اس کے پاس زبردست فوج تھی۔ اس کو فتح کرنے  
 لئے کچھ عرصہ درکار تھا، اس لئے سلطان نے عسقلان کا رخ کیا۔ اور  
 کا محاصرہ کر لیا۔ مگر شہر والوں نے چند روز کے بعد جان کی امان چاہی  
 شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔

عسقلان کی فتح کے بعد بیت المقدس کا راستہ صاف ہو گیا۔

مگر اس پر قبضہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہاں بہت سے شکست  
 ہوئے سپاہی جمع ہو گئے تھے جن کی تعداد ساٹھ ہزار سے اوپر تھی۔

مسلمانوں کے لئے بھی اتنا ہی معزز و شہرہ تھا جتنا عیسائیوں کے لئے۔ اس لئے سلطان یہاں خوزینہ ہی پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے عیسائیوں کو پتلا بھیجا کہ شہر میرے حوالے کر دو، اور اس کے معاوضہ میں تم کو اتنا علاقہ دے دوں گا جتنا تم سنبھال سکو۔ مگر عیسائیوں نے انکار کر دیا۔ اب سلطان کو مجبوراً لڑنا پڑا۔ کئی دن تک پُر زور مقابلہ ہوتا رہا۔ مسلمان سپاہی شہر پناہ کو توڑنا چاہتے تھے لیکن اس کے اوپر سے ان پر تیر چلائے جا رہے تھے۔ باہر بھی عیسائی سپاہی لڑ رہے تھے۔ اس لئے وہ شہر پناہ تک نہ پہنچ سکے۔ آخر ایک دفعہ ریلہ کر کے مسلمانوں نے عیسائیوں کو اندر دھکیل دیا۔ بڑھتے ہوئے شہر پناہ تک پہنچ گئے، اور بھاری پتھر مار کر اسے توڑ ڈالا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ وہ شہر کو نہیں بچا سکتے، اور ان کی موت یقینی ہے تو وہ جان و مال کی حفاظت کی شرط پر شہر حوالے کر دینے پر تیار ہو گئے۔ پہلے تو سلطان نے انکار کر دیا، پھر اس خیال سے کہ کہیں شہر کی بے حرمتی ہو، وہ مان گیا۔ شرط یہ قرار پائی کہ بیت المقدس کے تمام عیسائی فی مرد دس دینار، فی عورت پانچ دینار اور فی بچہ دو دینار فدیہ ادا کریں گے، اور چالیس دن کے اندر جن کا فدیہ ادا نہ ہوگا وہ غلام شمار کئے جائیں گے۔ اس طرح پورے اکانوے سال کے بعد خدا کا یہ گھر پھر مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ اتفاق دیکھئے کہ یہ تاریخ معراج نبوی کی ہے۔

آپ کو شاید معلوم ہو کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا  
تھا، تو انہوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے تھے۔ سلطان چاہتا تو  
ان کا بدلہ لے سکتا تھا۔ مگر اس نے عیسائیوں سے بڑی فیاضی اور شفقت  
کا سلوک کیا۔ اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں۔

عیسائیوں نے ایک سو برس میں بیت المقدس کی حالت بگاڑ دی  
تھی۔ سلطان نے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا۔ مسجد اقصیٰ کو بنیاستوں سے پاک  
کیا اور اس میں وہ خوبصورت منبر رکھوایا، جو سلطان نور الدین نے اپنے عہد  
میں بنوایا تھا کہ بیت المقدس کو فتح کر کے اس مسجد میں رکھوائے گا۔  
بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضہ نے ساری عیسائی دنیا میں ایک  
تہلکہ برپا کر دیا۔ اور تیسری جنگ صلیبی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس کے  
لئے پادریوں نے یورپ کا دورہ کر کے اپنی پرجوش تقریروں سے مسلمانوں کے  
خلاف آگ لگا دی۔ پوپ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص اس مقدس جنگ میں  
شریک ہوگا اس کے سارے گناہ دُھل جائیں گے۔ غرض تھوڑے عرصہ  
میں ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ فرانس، جرمنی، انگلستان، اٹلی اور سسلی  
بادشاہ اس میں شریک تھے۔ اتنے بادشاہوں نے پہلے کبھی کسی جنگ  
حصہ نہیں لیا تھا۔ ان میں سے سب سے پیش پیش انگلستان کا بادشاہ  
تھا۔ اس عظیم الشان لشکر نے سب سے پہلے عکا کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان

صلاح الدین نے پورے تین سال تک بڑی بہادری کے ساتھ یورپ کی اس  
 متحدہ قوت کا مقابلہ کیا۔ اس مدت میں سو سے زیادہ لڑائیاں اور نو بڑے  
 نعرے ہوئے۔ آخر سلطان نے شہر کو چند شرطوں پر عیسائیوں کے حوالے  
 کر دیا۔ مگر انیسویں ہے کہ عیسائیوں نے بہت سی شرطیں پوری نہیں کیں  
 عکا پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیوں نے یافا جسے مسلمانوں نے خالی کر دیا  
 تھا، اپنے قابو میں کر لیا۔ چونکہ سلطان عسقلان کی حفاظت نہ کر سکتا تھا  
 اس لئے اسے برباد کر دیا۔ اب عیسائی بیت المقدس کی طرف بڑھے مگر  
 صلاح الدین نے اس کی حفاظت کا ایسا اعلیٰ انتظام کیا تھا کہ وہ ذرا  
 سی بچی کا میا پی حاصل نہ کر سکے۔ ادھر ادھر لڑائیاں ہوتی رہیں جو بے نتیجہ  
 ثابت ہوئیں۔ ان لڑائیوں سے تنگ آ کر کئی بادشاہ اور امیر یورپ اس  
 چلے گئے۔ مگر چرچہ برابر میدان میں ڈٹا رہا۔ رچرڈ نے بیت المقدس فتح  
 کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر تنگ آ کر اسے صلح کرنا پڑی۔  
 صلح کی شرط یہ تھی کہ تنگ سے لے کر یافا تک کے ساحل پر عیسائی قابض ہیں گے  
 اور وہاں سے لے کر جنوب کا ساحل علاقہ صلاح الدین کے قبضہ میں رہے گا۔  
 اس جنگ میں یورپ کے لاکھوں سپاہی کئی بادشاہ اور سینکڑوں  
 امیر کھام آئے اور بے اندازہ دولت برباد ہوئی۔ اس کے مقابلہ میں عیسائیوں  
 کو حاصل کچھ نہ ہوا۔ مسلمانوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن ان

کو اس کے بدلے میں فلسطین کا قریب قریب پورا علاقہ مل گیا تیسری صلیبی جنگ میں تمام مسیحی دنیا کی مجموعی طاقت مقابلہ کرنے آئی مگر سلطان صلاح الدین کی قوت کوش سے مس نہ کر سکی ۰

صلح کے بعد سلطان نے فوجوں کو آرام دینے کے لئے ان کے وطن واپس کر دیا۔ اور خود چند مہینوں کے لئے فلسطین بٹھرا گیا، اور ضروری انتظام کرنے کے بعد دمشق واپس آ گیا۔ کئی سال سے اس کی صحت بگڑ رہی تھی مگر وہ جہاد میں اتنا مصروف تھا کہ آرام کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ بیماری کی وجہ سے رمضان کے بہت سے روزے قضا ہو گئے تھے۔ دمشق آ کر ان کو پورا کرنا شروع کیا۔ طبیبانے روکا کہ صحت پر بڑا اثر پڑے گا۔ سلطان نے جواب دیا۔ معلوم نہیں آئندہ کیا پیش آئے، اور کل روزے پورے کئے۔ اس سے صحت اور بگڑ گئی، اور بخار آنے لگا۔ آخر منگل کے دن ۴ مارچ ۱۱۹۳ء کو فجر کے وقت ہمیشہ کے لئے آنکھ بند کر لی۔ اس وقت کل ۷۵ سال کی عمر تھی۔ غسل کے بعد عصر کے وقت اسی مکان میں جس میں بیمار تھا، اس مجاہدِ عظیم کو دفن کیا گیا۔ لاش کے ہمراہ وہ تلوار بھی رکھ دی گئی جو ہمیشہ خدا کی راہ میں بے نیام رہی۔ اب اس کو چلانے والا ہاتھ باقی نہ رہ گیا تھا ۰

سلطان صلاح الدین کی موت سے اسلامی دنیا میں صفتِ ماتم چھ گئی

دنی دل ایسا نہ تھا، جو اس غم میں رنجیدہ نہ ہوا ہو، اور کوئی آنکھ ایسی  
 بھٹی جو اس کے ماتم میں روئی نہ ہو۔ میت کو دفن کرنے کے بعد سب  
 اپنے اپنے گھر چلے آئے، اور دروازے بند کر کے بیٹھ رہے۔ بچی کو چوں  
 کہ بازاروں میں کوئی آدمی نظر نہ آتا تھا۔ قبر پر لوگ قرآن مجید پڑھنے  
 تے، رو کر خدا سے دعائیں مانگتے کہ جو شخص یہاں سوتا ہے اس پر  
 خدا کی رحمت ہمیشہ برستی رہے۔

سلطان صلاح الدین بڑا بہادر، نڈر اور مستقل مزاج تھا۔ کیسا  
 خطرناک مرحلہ کیوں نہ ہو، بالکل نہ گھبراتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ عیسائیوں  
 کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ان کی امدادی فوجیں لگاتار آ رہی ہیں  
 لیکن سلطان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا بلکہ اس سے اس کی ہمت  
 اور حوصلہ اور بڑھ جاتا تھا۔ وہ ہر سال سردی کے موسم میں فوجوں کو  
 اپنے وطن واپس کر دیتا تھا، اور خود مختور ہی سی فوج کے ساتھ دشمن کا  
 مقابلہ کرتا رہتا تھا۔ جنگ کے زمانہ میں دشمنوں کی طمانت اور حالات کا  
 اندازہ لگانے کے لئے خطرے کی پروا کئے بغیر ان کی لشکرگاہ کے گرد ایک  
 دو مرتبہ ضرور چکر لگاتا تھا۔ عین اس وقت جب لڑائی زوروں پر ہو رہی  
 ہوتی، فوج کی صفوں میں گھوم پھر کر ان کی ترتیب قائم کرتا اور سپاہیوں  
 کو ضروری ہدایتیں دیتا۔ اس سلسلہ میں دشمن کی صفوں کے بالکل ترتیب

پہنچ جاتا تھا۔ اس نے کبھی یہ پرواہی نہیں کی کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور نہ اس کو کسی قسم کی اہمیت دی۔ مگر اس کے ساتھ ہی وہ جنگی تدبیروں سے غافل نہ رہتا تھا۔ فوجی افسروں کی وہ رائیں سنتا اور جو اچھی ہوتی اس پر عمل بھی کرتا تھا۔

اس کی ساری عمر میدانِ جنگ ہی میں گزری۔ کئی بار سخت بیمار ہوا لیکن اس سے جہاد کی سرگرمی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ جہاد ہی میں مصروف رہتا تھا، اور اس کے لئے بڑا انتظام کرتا تھا۔ اس کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ اس کے دل و دماغ پر دن رات جہاد ہی چھا رہتا تھا۔ جہاد کے علاوہ نہ کسی اور مضمون پر بات کرتا، نہ دوسرا کام کرتا۔ جہاد کے ہتھیاروں کے علاوہ اور کسی ساز و سامان کی طرف نگاہ نہ اٹھاتا۔ ہر وقت فوجی تیاریوں میں لگا رہتا تھا۔ غرض جہاد ہی اس کا اور دھنا بچھو رہا تھا۔ اس کے لئے اس نے اپنی ہومی اپنے، وطن، گھر بار اور آرام کے سارے سامان چھوڑ دیئے تھے۔ بس خیمہ کی زندگی اختیار کر لی تھی جس کے ہر طرف ہوا کے جھکڑ چل رہے ہوں۔ جہاد میں جتنی زیادہ مشکلیں اور دشواریاں پیش آئیں، اتنا ہی اس میں صبر و استقلال اور بڑھتا تھا۔ جو لوگ اس کے زیادہ قریب رہنا چاہتے تھے، وہ جہاد کو اس کا وسیلہ بناتے تھے یہ حال دیکھ کر کئی عالموں نے جہاد پر کتابیں لکھیں جنہیں سلطان پڑھا کرتا تھا۔



سلطان کی بہت اور استقلال کا یہ حال تھا، کہ جس زمانے میں عسکر  
 کا محاصرہ کئے ہوئے تھا، تو پچھلے دستر میں بہت سے پھوڑے نکل آئے۔ اتنی  
 تکلیف تھی کہ دسترخوان پر بھی نہ بیٹھا جاتا تھا۔ لیکن اسی حالت میں صبح سے  
 ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا رہتا تھا۔ جب  
 لوگوں نے اس کے عبر اور برداشت پر حیرانی ظاہر کی، تو اس نے کہا: جب  
 میں گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن گھوڑے  
 سے اترتا ہوں تو پھر واپس آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سلطان بیمار تھا۔ غیسا نیر  
 کو اس کی خبر ملی، تو وہ ایک شہر کی جانب بڑھے۔ سلطان اسی بیماری کی  
 حالت میں ان کے مقابلے کو نکل کھڑا ہوا۔ گرمی بڑی سخت پڑ رہی تھی۔  
 سلطان نے دھوپ سے بچنے کے لئے چہرے پر رومال ڈال لیا تھا۔ تھوڑے  
 دُور چل کر ٹھہر جاتا تھا۔ اس طرح اُس نے سارا راستہ طے کیا اور غیسا نیر  
 کے قریب پہنچ کر ان کی تدبیر ناکام کر دی۔ اسی طرح ایک اور شہر کے محاصرہ  
 کے زمانے میں سخت سردی پڑ رہی تھی۔ بارش ہونے سے سردی اور بھی  
 چمک گئی تھی۔ سلطان نے ساری رات جاگ کر اپنے سامنے پارچ  
 منجینتیں لگوائیں ۛ

ایک مرتبہ کسی جنگ کے دوران میں اس کے نوجوان بیٹے اسماعیل  
 کی موت کی خبر ملی۔ سلطان نے یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کیا۔ اور نہ یہ ظاہر

ہونے دیا کہ کیسا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ البتہ جب موت کی اطلاع کا خط پڑھتا تھا، تو آنکھوں میں آنسو آجاتے تھے۔ اسی طرح نوجوان بھتیجے تقی الدین عمر کی موت کی خبر آئی تو اتنا رنج ہوا کہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ تقی الدین سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ مگر اُس نے صرف چند خاص لوگوں کو یہ خبر بتائی اور تاکید کر دی کہ عام نہ ہونے پائے۔ سلطان کو اپنے بچوں سے بڑی محبت تھی، مگر خدا کی راہ میں سب کو چھوڑ دیا تھا:

سلطان صلاح الدین صرف مجاہد ہی نہیں تھا، بلکہ اخلاق و کردار کا بھی مکمل نمونہ تھا۔ اس میں بے شمار خوبیاں جمع تھیں۔ اُسے دینی احکام کی پابندی اور شریعت کی حفاظت کا بڑا خیال تھا۔ نماز باجماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ برسوں تنہا پڑھنے کا اتفاق نہ ہوا۔ بیماری کی حالت میں بھی امام کو گھر پر بلا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ جب تک اس کے ہوش و حواس قائم رہے نماز نہ چھوٹی۔ سفر میں جس مقام پر نماز کا وقت آ جاتا، سواری روک کر اتر پڑتا اور نماز پڑھنے کے بعد آگے بڑھتا۔ اس کے پاس کبھی اتنا روپیہ جمع نہیں ہوا کہ زکوٰۃ واجب ہوتی۔ روزے بڑھی پابندی سے رکھتا تھا۔ آخر کے چند سالوں میں بیماری کی وجہ سے روزے قضا ہو گئے تھے مگر صحت کی خرابی کے باوجود وفات سے پہلے ان کو پورا کر دیا۔ بلکہ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، انہیں روزوں کی وجہ سے اس کی صحت بگڑ

۱۔ حج کا ہر سال ارادہ کرتا تھا مگر جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے اس کا موقعہ ملتا تھا۔ جب عیسائیوں سے صلح ہو گئی تو حج کے انتظام شروع کر دیئے۔ وقت کی تنگی اور روپے کی کمی کے باعث ایسا نہ ہو سکا۔ اس کو اگلے سال بلتوی کر دیا مگر موت نے اُس کا موقع نہ دیا ۛ

کلام مجید سننے کا بڑا شوق تھا۔ ہمیشہ اس قاری کو امام بناتا تھا، نہ صرف عالم ہو بلکہ جس کی آواز بھی اچھی ہو۔ رات کو خاص مجلس میں اون کو عام مجلس میں پابندی سے قرآن پڑھوا کر سنتا تھا۔ قرآن کی آیتیں سن کر خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ حدیث بھی بڑے شوق سے سنتا تھا۔ جب کسی بڑے محدث کا ام سنتا تو اُسے فوراً بلوا بھیجتا، اگر اُسے آنے میں کوئی مجبوری ہوتی تو خود چلا جاتا۔ علماء اور مشائخ کی بڑی عزت کرتا تھا، اور انہیں ستھنے اور ہدیے دیتا تھا ۛ

ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ بڑا عادل، رحمدل اور کمزوروں کا مددگار تھا۔ کچھ بھنی ہوا پیر اور جمبعہ کو ضرورت عدالت کرتا تھا۔ قاضی وہاں موجود رہتے تھے۔ پیر ایک کے لئے عدالت کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ سلطان پہنچنے کے لئے کسی وسیلہ کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے انصاف کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ اس معاملے میں وہ اپنے پرستے میں کوئی تمیز نہیں

کرتا تھا ۔

اس کی فیاضی اور سخاوت انتہا تک پہنچی ہوئی تھی۔ مال خزانہ اس کے پاس کبھی جمع نہیں ہوا۔ اس کی سخاوت ہمیشہ اُسے خیراتی کاموں میں خرچ کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وفات کے وقت خزانے میں کل ۴۷ درم پانزی کے تھے اور ایک ٹکڑا سونے کا۔ اس کے علاوہ نہ اُس نے کوئی جاگیر چھوڑی نہ جائیداد، نہ باغ، نہ کوئی گاؤں نہ کچھ اور فیاضی اور سخاوت کی اس سے بہتر مثال کہاں مل سکتی ہے ؟

حلم اور بردباری اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہر ایک کے ساتھ نرمی اور تحمل سے پیش آتا۔ کبھی اس کی زبان سے کوئی گالی نہیں نکلی۔ کسی خدمت گزار کو بھڑکنے کے لئے اس نے کبھی کرخت لہجہ اختیار نہیں کیا۔ کسی ملازم سے کوئی بڑا ہی تصور ہو جاتا تو نرم انداز میں اُسے سمجھاتا تھا جہاں لیا کی خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم بڑی خاطر تواضع کرتا تھا۔ کئی عیسائی حاکم اس کے پاس آئے جن کی مہاں داری میں اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ خود ان کے خیمہ میں جا کر ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔

سلطان نے کبھی دھوکے سے کام نہیں لیا۔ اپنی زبان سے نکالی ہوئی بات کا ہمیشہ پاس کرتا تھا۔ ہمیشہ وہی وعدہ کیا، جس کے پورا کرنے کا ارادہ دل میں رکھتا تھا۔ ان سب خوبیوں کے علاوہ وہ بڑا اظہارِ سخاوت

اور بہت پاکیزہ مذاق کا مالک تھا۔ اس کی مجلس فحش باتوں سے پاک پڑا کرتی تھی۔ وہ سنجیدہ اور اچھی باتیں سنا پسند کرتا تھا۔

ان سب باتوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین نے مسلمانوں کی فلاح بہبود اور ان کی تمدنی اور علمی زندگی کے لئے بہت سے کام انجام دیئے جن کی تفصیل لمبی ہے۔ اپنی ساری سلطنت میں مدرسے اور کالج قائم کئے

بڑے بڑے شہروں میں مساجد خانے اور شفا خانے بنوائے۔ مسجدیں و مہرابیاں تعمیر کرائیں۔ صوفیوں کے لئے خانقاہیں بنوائیں۔ ان کے وظیفے مقرر کئے

غرض اس نے اپنے عہد میں اتنے نیک کام کئے کہ اسلام کی تاریخ میں دوسری مثال نہیں ملتی۔ ایک مؤرخ نے بالکل صحیح لکھا ہے، کہ سلطان دین و دنیا دونوں میں سعید تھا۔

سلطان صلاح الدین پر خدا کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں۔ آئیے یہاں کے حق میں دعائے خیر کریں!





سُلطان محمد ثانی

فناح قسطنطنیہ

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين  
والصلاة والسلام على  
سيدنا محمد وآله الطيبين  
الطاهرين  
الذين هم خاتم النبيين  
مؤتمرون بهم ولو كفر  
بهم الجاهلون



کہ سارا عیسائی لشکر کچھ اگیا ہے۔ اور میدان جنگ میں پڑی ہوئی لاشیں نظر آئیں تو اندازہ ہوتا کہ زندہ کوئی نہیں بچا ہوگا۔

جنگ ختم ہونے کے بعد معزز قیدی سلطان کے سامنے پیش کئے گئے۔ بادشاہ کافی کو اس نے اپنے پہلو میں جگہ دی۔ باقی امیروں کو بھی ان کے رتبہ کے مطابق بٹھایا۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے قسم کھائی تھی کہ اگر ریچی نالڈ اس کے قبضہ میں آیا، تو اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ چنانچہ پہلے اس نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اس کے انکار کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کا سر اڑا کر اپنی قسم پوری کی۔ ریچی نالڈ کا انجام دیکھ کر کافی ڈر گیا۔ سلطان نے اس کو اطمینان دلایا، اور کہا۔ "بادشاہوں کا یہ دستور نہیں ہے کہ وہ دوسرے بادشاہ کو قتل کریں۔ ریچی نالڈ کو تو خود اپنی زیادتیوں کی وجہ سے اپنی جان کے ہاتھ دھونا پڑا۔"

حطین کی شکست سے عیسائیوں کی قوت بہت کمزور پڑ گئی۔ اسلامی فوجوں نے حطین کی فتح کے بعد صرف ایک دن آرام کیا، اور پھر ایک زبردست سیلاب کی طسح نلک میں پھیلنا شروع کر دیا۔ اب ان فوجوں کے لئے اتنا کافی تھا کہ وہ کسی شہر کے سامنے آئیں، اور اس کی دیواریں گر پڑیں اور شہر کی فوج اپنے ہتھیار ڈال دے۔ صرف چند مضبوط قلعے ایسے تھے

جنہوں نے کچھ ہمت کی۔ لیکن اُن میں سے بھی کوئی قلعہ ایسا نہ تھا، جس نے ایک ہفتہ سے زیادہ مقابلہ کیا ہو۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے پر قبضہ کیا گیا۔ پھر فلسطین کی بندرگاہ اور تجارت کی منڈی عکا پر حملہ وہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی۔ سلطان نے انہیں جا دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو عکا ہی میں رہیں، اور اگر چاہیں، تو اپنا لے کر نکل جائیں۔ عکا کی جامع مسجد کو عیسائیوں نے گر جا بنالیا تھا۔ سو سال بعد سلطان صلاح الدین نے پھر اسے مسجد بنایا، اور یہاں جمعہ کی ادا کی۔ اس کے بعد کئی اور چھوٹے چھوٹے شہر فتح ہوئے، اور ان کے فلسطین کے خوبصورت اور مضبوط شہر بیروت پر قبضہ کر لیا گیا۔ بیروت بعد ساحلی شہروں میں صور اور عسقلان دو بڑے شہر رہ گئے تھے۔ صور کو کوئی لڑا تھا، اور اس کے پاس زبردست فوج تھی۔ اس کو فتح کرنے کے لئے کچھ عرصہ درکار تھا، اس لئے سلطان نے عسقلان کا رخ کیا۔ اور کا محاصرہ کر لیا۔ مگر شہروالوں نے چند روز کے بعد جان کی امان چاہی شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔

عسقلان کی فتح کے بعد بیت المقدس کا راستہ صاف ہو گیا مگر اس پر قبضہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہاں بہت سے شکست کھائے ہوئے سپاہی جمع ہو گئے تھے جن کی تعداد ساٹھ ہزار سے اوپر تھی۔

مسلمانوں کے لئے بھی اتنا ہی معزز و شہر تھا جتنا عیسائیوں کے لئے۔ اس لئے سلطان یہاں خوزریزی پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ شہر میرے حوالے کر دو، اور اس کے معاوضہ میں تم کو اتنا علاقہ دے دوں گا جتنا تم سبجھال سکو۔ مگر عیسائیوں نے انکار کر دیا۔ اب سلطان کو مجبوراً لڑنا پڑا۔ کئی دن تک پُر زور مقابلہ ہوتا رہا۔ مسلمان سپاہی شہر پناہ کو توڑنا چاہتے تھے لیکن اس کے اوپر سے ان پر تیر چلائے جا رہے تھے۔ باہر بھی عیسائی سپاہی لڑ رہے تھے۔ اس لئے وہ شہر پناہ تک نہ پہنچ سکے۔ آخر ایک دفعہ ریلہ کر کے مسلمانوں نے عیسائیوں کو اندر دھکیل دیا۔ بڑھتے ہوئے شہر پناہ تک پہنچ گئے، اور بھاری پتھر مار کر اسے توڑ ڈالا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ وہ شہر کو نہیں بچا سکتے، اور ان کی موت یقینی ہے تو وہ جان و مال کی حفاظت کی شرط پر شہر حوالے کر دینے پر تیار ہو گئے۔ پہلے تو سلطان نے انکار کر دیا، پھر اس خیال سے کہ کہیں شہر کی بے حرمتی ہو، وہ مان گیا۔ شرط یہ قرار پائی کہ بیت المقدس کے تمام عیسائی فی مرد دس دینار، فی عورت پانچ دینار اور فی بچہ دو دینار فدیہ ادا کریں گے، اور چالیس دن کے اندر جن کا فدیہ ادا نہ ہوگا وہ غلام شمار کئے جائیں گے۔ اس طرح پورے اکانوے سال کے بعد خدا کا یہ گھر پھر مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ اتفاق دیکھئے کہ یہ تاریخ معراج نبوی کی ہے،

آپ کو شاید معلوم ہو کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے تھے۔ سلطان چاہتا، تو ان کا بدلہ لے سکتا تھا۔ مگر اس نے عیسائیوں سے بڑی فیاضی اور شفقت کا سلوک کیا۔ اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں۔

عیسائیوں نے ایک سو برس میں بیت المقدس کی حالت بگاڑ دی تھی۔ سلطان نے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا۔ مسجد اقصیٰ کو بنجاستوں سے پاک کیا اور اس میں وہ خوبصورت منبر رکھوایا، جو سلطان نور الدین نے اپنے عہد میں بنوایا تھا کہ بیت المقدس کو فتح کر کے اس مسجد میں رکھوائے گا۔

بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضہ نے ساری عیسائی دنیا میں ایک ہلکہ برپا کر دیا۔ اور تیسری جنگ صلیبی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس کے لئے پادریوں نے یورپ کا دورہ کر کے اپنی پُر جوش تقریروں سے مسلمانوں کے خلاف آگ لگا دی۔ پوپ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص اس مقدس جنگ میں شریک ہوگا۔ اس کے سارے گناہ دُسل جائیں گے۔ غرض تھوڑے عرصہ میں ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ فرانس، جرمنی، انگلستان، اٹلی اور سسلی کے بادشاہ اس میں شریک تھے۔ اتنے بادشاہوں نے پہلے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ان میں سے سب سے پیش پیش انگلستان کا بادشاہ چلے گا۔ اس عظیم الشان لشکر نے سب سے پہلے عکا کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان ان

صلاح الدین نے پورے تین سال تک بڑی بہادری کے ساتھ یورپ کی اس  
 متحدہ قوت کا مقابلہ کیا۔ اس مدت میں سو سے زیادہ لڑائیاں اور نو بڑے  
 معرکے ہوئے۔ آخر سلطان نے شہر کو چند شرطوں پر عیسائیوں کے حوالے  
 کر دیا۔ مگر انہوں نے کہ عیسائیوں نے بہت سی شرطیں پوری نہیں کیں  
 عکا پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیوں نے یافا جسے مسلمانوں نے خالی کر دیا  
 تھا، اپنے قابو میں کر لیا۔ چونکہ سلطان عسقلان کی حفاظت نہ کر سکتا تھا  
 اس لئے اسے برباد کر دیا۔ اب عیسائی بیت المقدس کی طرف بڑھے مگر  
 صلاح الدین نے اس کی حفاظت کا ایسا اعلیٰ انتظام کیا تھا کہ وہ ذرا  
 سی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ادھر ادھر لڑائیاں ہوتی رہیں جو بے نتیجہ  
 ثابت ہوئیں۔ ان لڑائیوں سے تنگ آ کر کئی بادشاہ اور امیر یورپ واپس  
 چلے گئے۔ مگر چرچہ برابر میدان میں ڈٹا رہا۔ رچرڈ نے بیت المقدس فتح  
 کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر تنگ آ کر اسے صلح کرنا پڑی۔  
 صلح کی شرط یہ تھی کہ عکا سے لے کر یافا تک کے ساحل پر عیسائی قابض رہیں گے  
 اور وہاں سے لے کر جنوب کا ساحلی علاقہ صلاح الدین کے قبضہ میں رہے گا۔  
 اس جنگ میں یورپ کے لاکھوں سپاہی، کئی بادشاہ اور سینکڑوں  
 امیر کام آئے اور بے اندازہ دولت برباد ہوئی۔ اس کے مقابلہ میں عیسائیوں  
 کو حاصل کچھ نہ ہوا۔ مسلمانوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن ان

کو اس کے بدلے میں فلسطین کا قریب قریب پورا علاقہ مل گیا تیسری صلیبی جنگ میں تمام مسیحی دنیا کی مجموعی طاقت مقابلہ کرنے آئی مگر سلطان صلاح الدین کی قوت کوش سے مس نہ کر سکی ۛ

صلح کے بعد سلطان نے فوجوں کو آرام دینے کے لئے ان کے وطن واپس کر دیا۔ اور خود چند مہینوں کے لئے فلسطین ٹھہر گیا، اور ضروری انتظام کرنے کے بعد دمشق واپس آ گیا۔ کئی سال سے اس کی صحت بگڑ رہی تھی مگر وہ جہاد میں اتنا مصروف تھا کہ آرام کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ بیماری کی وجہ سے رمضان کے بہت سے روزے قضا ہو گئے تھے۔ دمشق آ کر ان کو پوزا کرنا شروع کیا۔ طبیب نے روکا کہ صحت پر بڑا اثر پڑے گا۔ سلطان نے جواب دیا۔ معلوم نہیں آئندہ کیا پیش آئے، اور کل روزے پورے کئے۔ اس سے صحت اور بگڑ گئی، اور بخار آنے لگا۔ آخر منگل کے دن ۴ مارچ ۱۱۹۳ء کو فجر کے وقت ہمیشہ کے لئے آنکھ بند کر لی۔ اس وقت کل ۷۵ سال کی عمر تھی۔ غسل کے بعد عصر کے وقت اسی مکان میں جس میں بیمار تھا، اس مجاہدِ عظیم کو دفن کیا گیا۔ لاش کے ہمراہ وہ تلوار بھی رکھ دی گئی جو ہمیشہ خدا کی راہ میں بے نیام رہی۔ اب اس کو چلانے والا ہاتھ باقی نہ رہ گیا تھا ۛ

سلطان صلاح الدین کی موت سے اسلامی دنیا میں صفت ماتم بچھ گئی

کوئی دل ایسا نہ تھا، جو اس غم میں رنجیدہ نہ ہوا ہو، اور کوئی آنکھ ایسی  
 نہ تھی جو اس کے ماتم میں روئی نہ ہو۔ میت کو دفن کرنے کے بعد سب  
 اپنے اپنے گھر چلے آئے، اور دروازے بند کر کے بیٹھ رہے۔ گلی کو چوں  
 در بازاروں میں کوئی آدمی نظر نہ آتا تھا۔ قبر پر لوگ قرآن مجید پڑھنے  
 لگے، رو کر خدا سے دعائیں مانگتے کہ جو شخص یہاں سوتا ہے اس پر  
 خدا کی رحمت ہمیشہ برستی رہے۔

سلطان صلاح الدین بڑا بہادر، نڈر اور مستقل مزاج تھا۔ کیسا  
 ہی خطرناک مرحلہ کیوں نہ ہو، بالکل نہ گھبراتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ عیسائیوں  
 کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ان کی امدادی فوجیں لگاتار آ رہی ہیں  
 لیکن سلطان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا بلکہ اس سے اس کی ہمت  
 اور حوصلہ اور بڑھ جاتا تھا۔ وہ ہر سال سردی کے موسم میں فوجوں کو  
 اپنے وطن واپس کر دیتا تھا، اور خود مختصر ہی سی فوج کے ساتھ دشمن کا  
 مقابلہ کرتا رہتا تھا۔ جنگ کے زمانہ میں دشمنوں کی طاقت اور حالات کا  
 اندازہ لگانے کے لئے خطرے کی پروا کئے بغیر ان کی لشکرگاہ کے گرد باک  
 دو مرتبہ ضرور چکر لگاتا تھا۔ عین اس وقت جب لڑائی زوروں پر ہو رہی  
 ہوتی، فوج کی صفوں میں گھرم پھر کر ان کی ترتیب قائم کرتا، اور سپاہیوں  
 کو ضروری ہدایتیں دیتا۔ اس سلسلہ میں دشمن کی صفوں کے بالکل فریب

پہنچ جاتا تھا۔ اس نے کبھی یہ پرواہی نہیں کی کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اور نہ اس کو کسی قسم کی اہمیت دی۔ مگر اس کے ساتھ ہی وہ جنگی تدبیروں سے غافل نہ رہتا تھا۔ فوجی افسروں کی وہ رائیں سنتا اور جو اچھی ہوں اُس پر عمل بھی کرتا تھا۔

اس کی ساری عمر میدانِ جنگ ہی میں گزری۔ کئی بار سخت بیمار ہوا لیکن اس سے جہاد کی سرگرمی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ جہاد ہی میں مصروف رہتا تھا، اور اس کے لئے بڑا انتظام کرتا تھا۔ اس کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ اس کے دل و دماغ پر دن رات جہاد ہی چھا رہتا تھا۔ جہاد کے علاوہ نہ کسی اور مضمون پر بات کرتا، نہ دوسرا کام کرتا۔ جہاد کے ہتھیاروں کے علاوہ اور کسی ساز و سامان کی طرف نگاہ نہ اٹھاتا۔ ہر وقت فوجی تیاریوں میں لگا رہتا تھا۔ غرض جہاد ہی اس کا اور صنا بچھونا تھا۔ اس کے لئے اس نے اپنی پوری انپے، وطن، گھر بار اور آرام کے سارے سامان چھوڑ دیئے تھے۔ بس خیمہ کی زندگی اختیار کر لی تھی جس کے ہر طرف ہوا کے جھکڑ چل رہے ہوں۔ جہاد میں جتنی زیادہ مشکلیں اور زحمتیں پیش آئیں، اتنا ہی اس میں صبر و استقلال اور بڑھتا تھا۔ جو لوگ اس کے زیادہ قریب رہنا چاہتے تھے، وہ جہاد کو اس کا وسیلہ بناتے تھے یہ حال دیکھ کر کئی عالموں نے جہاد پر کتاہیں لکھیں جنہیں سلطان پڑھا کرتا تھا۔



معدن کو منت در کسطنینا اور سو رخت کس جس واسے جس کو  
کاموہ کے ہونے کو نہ چھوڑے جو ہیں بہت سے چوڑے تھیں اسکے رخت  
تھیں کچھ روز سے تو ان پر بھی مہر لگا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت میں اس سے  
بڑھ کر لکھنؤ سے مغرب تک بڑا بڑا شہر تھے جو پختہ پور تھے۔ جب  
یوں سے اس کے خیر دور اور شہر پر تھیں تو ان میں اس کے وہاں  
میں کھڑے پر سو رہا۔ اس وقت میں کھڑے تھے۔ میں کھڑے  
کے وقت میں کچھ اور ہیں کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ سنتن پریم رخت نصیر  
کو اس کی خبر ہوئی تو وہ ایک شہر کی جانب بڑھے۔ سنتن میں کھڑے  
جات ہیں ان کے مقابلے کو کچھ روز بڑی سختی پڑتی تھی۔  
ساتن سے رختوں کے لپٹنے کے لئے چہرے پر دواں لڑا یہ تھا۔ خود  
دور ہیں کچھ روز تھے۔ اس وقت اس کے سر کسے سے یہ نصیر  
کے قریب پہنچ کر ان کی تہذیب کا کام کر دی۔ اس وقت ایک اور شہر کے  
کے رہنے میں سخت سردی پڑ رہی تھی۔ بارش ہونے سے سردی اور بھی  
چمک گئی تھی۔ سنتن نے سردی رخت جاگ کر اپنے پاس سے ہانچ  
منجانیقیں لگو لیا۔

ایک مرتبہ کسی جنگ کے دوران میں اس کے ان جوان بیٹے تھیں  
کی موت کی خبر ملی۔ سلطان نے یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کیا۔ اور نہ یہ ظاہر

ہونے دیا کہ کیسا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ البتہ جب موت کی اطلاع کا خط پڑھتا تھا، تو آنکھوں میں آنسو آجاتے تھے۔ اسی طرح نوجوان بھتیجے تقی الدین عمر کی موت کی خبر آئی تو اتنا رنج ہوا کہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ تقی الدین سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ مگر اس نے صرف چند خاص لوگوں کو یہ خبر بتائی اور تاکید کر دی کہ عام نہ ہونے پائے۔ سلطان کو اپنے بچوں سے بڑی محبت تھی مگر خدا کی راہ میں سب کو چھوڑ دیا تھا۔

سلطان صلاح الدین صرف مجاہد ہی نہیں تھا، بلکہ اخلاق و کردار کا بھی مکمل نمونہ تھا۔ اس میں بے شمار خوبیاں جمع تھیں۔ اُسے دینی احکام کی پابندی اور شریعت کی حفاظت کا بڑا خیال تھا۔ نماز باجماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ برسوں تنہا پڑھنے کا اتفاق نہ ہوا۔ بیماری کی حالت میں بھی امام کو گھر پر بلا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ جب تک اس کے ہوش و حواس قائم رہے نماز نہ چھوٹی۔ سفر میں جس مقام پر نماز کا وقت آ جاتا، سواری روک کر اتر پڑتا اور نماز پڑھنے کے بعد آگے بڑھتا۔ اس کے پاس کبھی اتنا روپیہ جمع نہیں ہوا کہ زکوٰۃ واجب ہوتی۔ روزے بڑی پابندی سے رکھتا تھا۔ آخر کے چند سالوں میں بیماری کی وجہ سے روزے قضا ہو گئے تھے مگر صحت کی خرابی کے باوجود وفات سے پہلے ان کو پورا کر دیا۔ بلکہ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، انہیں روزوں کی وجہ سے اس کی صحت بگڑ

ہی۔ حج کا ہر سال ارادہ کرتا تھا مگر جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے اس کا موقعہ  
 ملتا تھا۔ جب عیسائیوں سے صلح ہو گئی تو حج کے انتظام شروع کر دیے  
 اور وقت کی تنگی اور روپے کی کمی کے باعث ایسا نہ ہو سکا۔ اس کو اگلے سال  
 پر ملتوی کر دیا مگر موت نے اُس کا موقع نہ دیا ۛ

کلام مجید سننے کا بڑا شوق تھا۔ ہمیشہ اس قاری کو امام بنانا تھا،  
 چونکہ صرف عالم ہو بلکہ جس کی آواز بھی اچھی ہو۔ رات کو خاص مجلس میں اور  
 دن کو عام مجلس میں پابندی سے قرآن پڑھا کر سنتا تھا۔ قرآن کی آیتیں  
 سن کر خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے  
 تھے۔ حدیث بھی بڑے شوق سے سنتا تھا۔ جب کسی بڑے محدث کا  
 نام سنتا تو اُسے فوراً بلوا بھیجتا، اگر اُسے آنے میں کوئی مجبوری ہوتی تو خود  
 چلا جاتا۔ علماء اور مشائخ کی بڑی عزت کرتا تھا، اور انہیں ستھے اور ہدیے  
 دیتا تھا ۛ

ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ بڑا عادل، رحمدل اور کمزوروں کا  
 مددگار تھا۔ کچھ بھی ہوا پیر اور جمہور کو ضرور عدالت کرتا تھا۔ قاضی وہاں ہو جو  
 رہتے تھے۔ ہر ایک کے لئے عدالت کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ سلطان تک  
 پہنچنے کے لئے کسی وسیلہ کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے انصاف کے کئی  
 واقعات مشہور ہیں۔ اس معاملے میں وہ اپنے پرانے میں کوئی تمیز نہیں

کرتا تھا۔

اس کی فیاضی اور سخاوت انتہا تک پہنچی ہوئی تھی۔ مال خزانہ اس کے پاس کبھی جمع نہیں ہوا۔ اس کی سخاوت ہمیشہ اُسے خیراتی کاموں میں خرچ کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وفات کے وقت خزانے میں کل ۴۷ درم چاندی کے تھے اور ایک ٹکڑا سونے کا۔ اس کے علاوہ نہ اُس نے کوئی جاگیر چھوڑی، نہ جائیداد، نہ باغ، نہ کوئی گاؤں نہ کچھ اور فیاضی اور سخاوت کی اس سے بہتر مثال کہاں مل سکتی ہے؟

علم اور بردباری اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہر ایک کے ساتھ نرمی اور تحمل سے پیش آتا۔ کبھی اس کی زبان سے کوئی گالی نہیں نکلی۔ کسی خدمت گزار کو جھڑکنے کے لئے اس نے کبھی کڑخت لہجہ اختیار نہیں کیا۔ کسی ملازم سے کوئی بڑا ہی قصور ہو جاتا تو نرم انداز میں اُسے سمجھاتا تھا۔ ممالوں کی خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم بڑی خاطر تواضع کرتا تھا۔ کئی عیسائی حاکم اس کے پاس آئے جن کی مہاں داری میں اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ خود ان کے خیمہ میں جا کر ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔

سلطان نے کبھی دھوکے سے کام نہیں لیا۔ اپنی زبان سے نکالی ہوئی بات کا ہمیشہ پاس کرتا تھا۔ ہمیشہ وہی وعدہ کیا، جس کے پورا کرنے کا ارادہ دل میں رکھتا تھا۔ ان سب خوبیوں کے علاوہ وہ بڑا ملنسار سا لگا

اور بہت پاکیزہ مذاق کا مالک تھا۔ اس کی مجلس فحش باتوں سے پاک بنوا کرتی تھی۔ وہ سنجیدہ اور اچھی باتیں سننا پسند کرتا تھا۔

ان سب باتوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی تمدنی اور علمی زندگی کے لئے بہت سے کام انجام دیئے جن کی تفصیل یہی ہے۔ اپنی ساری سلطنت میں مدرسے اور کالج قائم کئے۔ بڑے بڑے شہروں میں مسافر خانے اور شفا خانے بنوائے۔ مسجدیں اور سرایاں تعمیر کرائیں۔ صوفیوں کے لئے خانقاہیں بنوائیں۔ ان کے وظیفے مقرر کئے۔ غرض اس نے اپنے عہد میں اتنے نیک کام کئے کہ اسلام کی تاریخ میں دوسری مثال نہیں ملتی۔ ایک مؤرخ نے بالکل صحیح لکھا ہے، کہ سلطان دین و دنیا دونوں میں سعید تھا۔

سلطان صلاح الدین پر خدا کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں۔ آئیے، اہل  
کے حق میں دعائے خیر کریں!





سُلطانِ محمدِ ثانی

فناحِ قسطنطنیہ





سُلطانِ سیدیمانِ عظیم  
فتحِ ہنگری

17  
10  
10  
10  
10

# سلطان سلیمان اعظم

”وہ خاندان عثمانیہ کا سب سے بڑا بادشاہ

اور اس وقت کا تمام دُنیا کا سب سے بڑا

شہنشاہ تھا“

ایک بڑے فخر کرنے والے بادشاہ اور سلطان سلیمان اعظم کے متعلق کہیں  
اور جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ وہ واقعی ترکوں میں تمام بادشاہوں  
میں سب سے بڑا تھا۔ اور فتوحات اور سلطنت کی وسعت کے حساب سے اس  
سے بڑھ گیا تھا۔ اس کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنے انتہائی عروج پر  
پہنچ گئی تھی۔

سلطان سلیمان چھبیس برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ وہ بہت کم عمر  
میں مختلف فتوحات کا حاکم رہ چکا تھا۔ اپنے والد سلطان سلیمان کی غیر حافظہ واپس

وہ قسطنطنیہ میں اس کی نمائندگی بھی کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی حکومت کے کئی کام اس کے سپرد ہوئے تھے جنہیں اس نے نہایت کامیابی سے سرانجام دیا تھا۔ اس لئے جب وہ تخت پر بیٹھا تو ایک نہایت لائق بادشاہ اور کامیاب منتظم ثابت ہوا۔ ان باتوں کے ساتھ ہی اس کی اپنی زندگی بالکل بے داغ تھی۔ وہ بہت رحم دل اور ہمدرد تھا۔ اس کے انصاف کی شہرت ملک بھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں نسل، رنگ اور مذہب کی کوئی تفریق نہ تھی۔ اسے دن رات رعایا کی بہبودی کا خیال رہتا تھا۔ چنانچہ جب وہ بادشاہ بنا تو تمام رعایا نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی سال اس نے انصاف اور رحم دلی کی ایسی مثالیں پیش کیں کہ اس کی ہر دلعزیزی بہت بڑھ گئی۔ اس نے تمام گورنروں کو حکم بھیجا کہ رعایا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اور ظلم نہ کیا جائے۔ امیر، غریب، مسلم اور غیر مسلم سب کے ساتھ یکساں طور پر انصاف ہو۔ اس حکم کی بدولت ملک میں ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ کہیں ایک شورشیں ضرور ہوئیں لیکن انہیں سختی اور آسانی سے دبا دیا گیا۔

جب سیہان کا عہد حکومت شروع ہوا، تو اس وقت یورپ کی سلطنتوں نے بڑی ترقی کر لی تھی۔ انہوں نے جدید ہتھیاروں کے ساتھ اپنی فوجوں کو منظم کر لیا تھا۔ ان کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا، کہ

مسلمانوں کو بیچا دکھایا جائے۔ اس وقت یورپ میں تین ملک خاص طور سے مشہور تھے۔ ایک ہنگری، جس کے پاس بہت بڑی فوج تھی۔ اور جس کی سرحدیں ترکی سلطنت کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ آسٹریا کی سلطنت تو بہت مضبوط تھی اور وہ یورپ کے آدھے سے زیادہ حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کے بادشاہ کا نام چارلس پنجم تھا۔ فرانس بھی اپنی خانہ جنگیوں کو ختم کر کے دوسرے ملکوں کی فتوحات کے لئے نکل چکا تھا۔ ان کے علاوہ ایران خواہ مخواہ ترکوں کا دشمن ہو گیا تھا، حالانکہ دونوں اسلامی سلطنتیں تھیں۔ یہ حالات تھے جن سے سلطان سلیمان کو واسطہ پڑا۔

سلطان سلیم کے دورِ حکومت کے آخری سالوں میں سلطنتِ عثمانیہ اور سلطنتِ ہنگری کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تھا، اور سرحدی علاقوں میں برابر چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس فتنہ کو دور کرنے کے لئے سلیمان کے لئے ضروری تھا کہ وہ دوسرے قلعوں کو ضرور فتح کر لے۔ ایک بلغراد کا قلعہ اور دوسرا زاہرہ کوز کا قلعہ۔ ان قلعوں کی فتح سرحد کو مضبوط بنانے کے لئے بھی ضروری تھی اور یورپ میں فتوحات کے لئے بھی۔ چنانچہ سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ لوئی ثانی کے پاس اپنے سفیر بھیجے، اور اس سے خراج کا مطالبہ کیا جس کی ادائیگی کا اُس نے وعدہ کر رکھا تھا۔ لوئی نے اس مطالبہ کا تو کوئی جواب نہ دیا البتہ ترکی سفیروں کو قتل کرادیا۔ سلطان کو

جب یہ خبر ملی، تو وہ بہت گرم ہوا۔ اور فوراً ہنگری کی فتح کے لئے روانہ ہو گیا۔ ایک فوج نے زاہرہ اور آس پاس کے دوسرے قلعوں کا محاصرہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان نے بلغراد کو گھیر لیا۔ سات روز کی گولہ باری کے بعد بلغراد فتح ہو گیا۔ یہ وہی بلغراد ہے جس کی فتح میں سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ میں ناکام رہا تھا۔ سلیمان کی رجمدی دیکھنے کہ فتح کے بعد نہ تو اس نے قلعہ کی فوج کو قتل کیا اور نہ شہر کے کسی باشندے کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ہاں اس نے وہاں بکھے سب سے بڑے گرجے میں نماز ادا کی اور وہاں تین خداؤں کی بجائے ایک خدا کی عبادت ہونے لگی۔ بلغراد میں اس نے ایک ترکی مسجد متعین کیا اور قلعہ کو مضبوط کر کے قسطنطنیہ واپس ہوا۔ اب ہنگری میں داخل ہونے کے تمام دروازے کھل گئے تھے۔ وہ چاہتا تو ہنگری کے پایہ تخت کی طرف بڑھ سکتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جزیرہ روڈس کی فتح ضروری تھی۔

جزیرہ روڈس پر عیسائیوں کی حکومت تھی، اور ان کے بہاڑ بچہ روم اور اناطولیہ کے ساحلوں پر لوٹ مار مچاتے رہتے تھے۔ چنانچہ سلطان نے تین سو ہزاروں کا بیڑہ قسطنطنیہ سے روڈس کی جانب روانہ کیا، اور نوے ایک لاکھ فوج لے کر ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل سے بڑھتا ہوا روڈس کے ساحل پر اترنا۔ تقریباً پانچ مہینے کی مدافعت کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار

ڈال دیئے۔ جب ادھر سے اطمینان ہوا، تو سلیمان نے ہنگری پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں، اور تھوڑے عرصہ کے بعد ایک لاکھ فوج اور تین سو توپوں کے ساتھ ادھر کا رخ کیا۔ قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے پانچ مہینے کے بعد ۲۸ اگست ۱۵۲۶ء کو موہاک کے میدان میں ہنگری کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ یہ جنگ دو گھنٹے سے بھی کم جاری رہی اور ہنگری کو بھاری شکست اٹھانا پڑی۔ چوبیس ہزار ہنگری سپاہی اور بہت سے امیر مارے گئے اور لوٹی بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ سلیمان ہنگری کے پایہ تخت بوڈا کے سامنے پہنچا، تو شہریوں نے ہتھیار ڈال کر دروازے کھول دیئے۔ ہنگری کے امیروں، وزیروں نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ چونکہ وہاں کے بادشاہ لوئی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لئے بڑے بڑے امیروں کے مشورے سے سلیمان نے وہیں کے ایک نواب کاؤنٹ زاپولیہ کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ اور ہنگری کے بعض سرحدی قلعوں میں ترک فوج رکھ کر قسطنطنیہ واپس آ گیا۔

سلیمان کے جانے کے بعد آسٹریا کے شہنشاہ چارلس پنجم کے بھائی فرڈی نینڈ نے ہنگری کے تخت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے آسٹریا کی فوجوں کی مدد سے زاپولیہ کو شکست دے کر ملک نکال دیا۔ زاپولیہ نے سلطان سے امداد کی درخواست کی۔ چنانچہ سلیمان قسطنطنیہ سے روانہ ہوا اور دھائی لاکھ

فوج اور تین سو توپوں کے ساتھ ہنگری میں داخل ہو کر بوڈا کا محاصرہ کر لیا  
 چھ روز میں شہر فتح ہو گیا۔ زاپولہ کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا، اور سلیمان  
 کے پایہ تخت ویانا کی طرف بڑھا۔ وہاں بادشاہ چارلس پنجم اس وقت یورپ کے  
 سب سے طاقتور فرماں روا تھا۔ اس نے ویانا کی حفاظت کے لئے ایک  
 بڑی فوج جمع کر لی اور ضروری انتظامات کی طرف متوجہ ہوا۔ اور تھوڑے ہی  
 عرصہ میں ان کو مکمل کر لیا۔ سلطان سلیمان نے ویانا پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا  
 بارش کی کثرت کی وجہ سے سڑکیں اس قدر خراب ہو گئی تھیں، کہ ترکوں کو  
 اپنی بڑی بڑی توپیں ہنگری میں چھوڑ دینی پڑیں۔ اب اس کے سوا کوئی  
 چارہ نہ تھا کہ سڑکیں کھود کر دیواریں گرائی جائیں۔ اگرچہ کئی جگہ سے دیواروں  
 میں شکاف پیدا ہو گئے مگر ترکی فوجیں شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ اتنے میں  
 موسم بڑا سخت خراب ہو گیا۔ ترک سپاہی اس کے عادی نہ تھے۔ سلیمان نے  
 محاصرہ اٹھالیا۔ تین سال کے بعد اس نے پھر ویانا کا رخ کیا۔ شہنشاہ چارلس  
 بھی اپنی فوج لئے ہوئے موجود تھا۔ مگر راستہ میں ایک دو قلعوں کو فتح کرنے  
 میں کافی عرصہ لگ گیا، اور سلیمان نے ویانا کی طرف بڑھنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔  
 اس کی بجائے اور کئی شہروں کو فتح کرتا ہوا قسطنطنیہ کو لوٹ گیا۔  
 چند سال تک اور زاپولہ اور فرڈی نڈر میں لڑائی کا سلسلہ جاری آیا  
 آخر میں ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ اس کی رو سے ہنگری کے دو حصے



کر دیئے گئے۔ مشرقی حصے کا بادشاہ زاپولہ کو تسلیم کیا گیا، اور مغربی حصے کا فریڈرک  
 کو۔ دوسرے ہی سال زاپولہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوہ اور فریڈریک  
 کے درمیان پھر جنگ چھڑ گئی۔ زاپولہ کی بیوہ نے اپنے بچے کے لئے سلیمان سے  
 مدد کی درخواست کی۔ سلیمان تیسری مرتبہ ہنگری میں داخل ہوا۔ اور فریڈریک  
 کو شکست دے کر بوڈا اور دوسرے بڑے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ہنگری  
 کو اس نے کئی صوبوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں ترکی فوجیں اور ترکی  
 گورنر مقرر کر دیئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ چارلس اور فریڈریک نے  
 صلح کی درخواست کی۔ اس میں جمہوریہ وینس، پوپ اور شاہ فرانس بھی شریک  
 ہو گئے۔ چنانچہ پانچ سال کے لئے صلح ہو گئی۔ سارے ہنگری پر سلطان  
 سلیمان کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ یہ صلح نامہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یورپ  
 کی طاقتوں نے سلیمان کو شہنشاہ اعظم تسلیم کر لیا تھا۔  
 جس طرح بڑی قوت کے لحاظ سے ایشیا اور یورپ کی کوئی سلطنت  
 ترکی کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی، اس طرح بحری طاقت کے اعتبار سے بھی اس  
 کی برابری کوئی نہ کر سکتا تھا۔ اگرچہ اس وقت اسپین اور وینس کے بحری  
 بیڑے سارے یورپ میں مشہور تھے۔ لیکن ترکی بیڑے نے انہیں کئی بار  
 شکستیں دیں۔ سلیمان کے عہد میں خیر الدین پاشا ترکی کے بیڑے کا امیر البحر  
 تھا۔ یہ بیڑہ غیر معمولی قابلیت کا مالک تھا۔ بحیرہ روم میں کوئی غیر ملکی بہانہ

آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ خیر الدین نے کئی جہزیں کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا۔ اس نے بحیرہ روم، بحیرہ ادرم اور بحیرہ ہند میں ترکوں کی بحری قوت کو درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ پورپ کا سب سے طاقتور شہنشاہ چارلس پنجم بھی تنہا اس کے مقابلے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ خیر الدین پارس کی وفات کے بعد طورغوت امیر البحر مقرر ہوا۔ اس نے طرابلس پر جو اس وقت عیسائیوں کے قبضہ میں تھا حملہ کر کے فتح کر لیا۔

اس وقت مسلمانوں کو پرتگال سے بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا تھا۔ پرتگیزیوں نے ایک بڑا بیڑا تیار کر کے مشرق کے ملکوں سے تجارت شروع کر دی تھی۔ اور اس سلسلے میں وہ عرب بہازوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ چونکہ عربوں کی بھی ان ملکوں سے تجارت تھی، اس لئے پرتگیزیوں نے یہ سمجھا کہ اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے، تاکہ ساری تجارت ان کے ہاتھ آجائے۔ انہوں نے عرب، حبش، ہندوستان اور فارس کے ساحلی علاقوں پر حملے کئے اور غیر مسلموں کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں اور عربوں کے ہاتھ سے سامان تجارت فروخت نہ کریں۔ انہوں نے جدہ اور عدن پر بھی کئی حملے کئے اس میں کبھی کامیابی ہوئی اور کبھی ناکامی۔ انتہا یہ ہے کہ پرتگیزیوں نے یہ خواب دیکھنے لگے۔ کہ جدہ پر کر کے حجاز پر حملہ کیا جائے، اور اسلام کی عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ ان سے یہ تو نہ ہو سکا مگر انہوں نے عدن پر قبضہ

لایا۔ سلطان سلیمان نے جب یہ خبریں سنیں تو اسے پرتگیروں کی جہازت پر ڈال کر  
 قبضہ آیا، اور اس نے ایک بیڑا ان کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔ اس بیڑے  
 نے پہلے عدن کو پرتگیروں کے قبضہ سے چھڑایا، اور پھر آگے بڑھ کر دشمنوں کے  
 بیڑے کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پرتگیروں کی ٹوٹ مار کا بڑی حد تک خاتمہ  
 ہو گیا۔ اور اگرچہ پھر بھی ان سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں مگر کوئی بڑا مقابلہ  
 پیش نہ آیا۔

ادھر ہنگری میں فرڈی نٹڈ کے انتقال کے بعد اس کے جانشین  
 کیسی پلن ثانی نے زاپولیا کے لڑکے کو تخت سے اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور  
 اس سلسلے میں اس نے کئی اہم قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ سلیمان کو جب  
 یہ معلوم ہوا، تو اس نے خود میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی عمر اس  
 وقت چھتر سال کی ہو چکی تھی، اور کمزوری اور بیماری کے باعث وہ سوڑھے  
 کی بیٹھ پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ پالکی میں سوار ہوا، اور ہنگری کا رخ  
 کیا۔ کئی قلعوں کو فتح کرتا ہوا، وہ ایک مشہور قلعہ زلی جت کے ساتھ پہنچا۔  
 یہاں کے حاکم نے سیاہ جھنڈا بلند کر کے اس بات کی قسم کھائی کہ جب  
 تک ایک سپاہی بھی زندہ رہے گا ہتھیار نہ ڈالیں گے۔ ترکوں نے اس  
 قلعے پر تین حملے کئے۔ لیکن ہر بار انہیں ناکامی ہوئی۔ آخر انہوں نے قلعے  
 کے سب سے بڑے برج کے نیچے سرنگ گھسود بارود بچھا دیا۔ اور ۵ ستمبر

۱۵۶۶ء کو صبح سویرے بارود میں آگ لگا دی۔ پھر بھی کہیں چار روز کی لگے  
 گولہ باری کے بعد ۸ ستمبر کو یہ قلعہ فتح ہوا۔ لیکن اس سے تین دن پہلے  
 ۵ ستمبر کو سلطان سلیمان اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم نے  
 اس کے انتقال کی خبر بالکل پوشیدہ رکھی اور اس کے نام سے تمام عکس  
 جاری کرتا رہا۔ اس نے اس کے لڑکے شہزادہ سلیم کے پاس یہ خبر بھیج دی تھی  
 اس درمیان میں ترکی فوجوں نے کئی شہر فتح کر لئے تھے۔ وزیر اعظم نے سلطان  
 کی لاش پر مصالحہ لگا کر اسے خراب ہونے سے محفوظ کر لیا تھا، اور لاش کو پانچ  
 میں رکھ کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتا تھا۔ اس لیے سپاہیوں  
 سے کہہ دیا تھا کہ سلطان بیماری کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس تدبیر سے  
 اس نے سات ہفتے تک اس کی وفات کو چھپائے رکھا۔ جب اسے معلوم  
 گیا، کہ قسطنطنیہ میں شہزادہ سلیم تخت پر بیٹھ چکا ہے، تو اس نے تمام فوج  
 کو جمع کر کے اعلان کر دیا کہ سلطان سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔

سلیمان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی وسعت، قوت اور خوشحالی  
 کے لحاظ سے کمال کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ اس کا رقبہ چالیس ہزار مربع میل  
 سے زیادہ تھا۔ اور اس میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ملک  
 شامل تھے۔ اس نے صرف ملکوں کو فتح کرنے ہی کی طرف توجہ نہ دی، بلکہ  
 ملک کا انتظام بھی نہایت اعلیٰ درجہ کا کیا تھا۔ اس نے رعایا کی بہبودی

لئے نئے نئے قانون بنائے تھے۔ اس لئے اس کو سلیمان قانونی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی غیر مسلم رعایا کے لئے جو قانون وضع کئے تھے، وہ ان کی رواداری اور روشن خیالی کی تابزرہ مثال ہیں۔

سلیمان کی سلطنت کی وسعت کا ایک بڑا سبب فوجی قوت تھی۔ پنے عہد میں اس نے فوجوں کی تعداد دگنی کر دی تھی۔ اس کی ایک خاص جگہ تھی جس کی تعداد بیس ہزار تھی۔ اس فوج کے سپاہی بڑے بہادر اور بری ہوتے تھے، اور اکثر فتوحات میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا۔ مستقل تنخواہ دار فوج اڑتالیس ہزار تھی۔ باضابطہ فوج کے علاوہ جو بے ضابطہ فوج جنگ کے موقع پر جمع ہو جاتی تھی اس کا شمار دو لاکھ سے زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ سو توپیں اور تین سو جہاز تھے۔ اگرچہ اس وقت یورپ کی عیسائی سلطنتوں کی فوجوں میں بہت ترقی ہو گئی تھی لیکن ترکی فوجیں تنظیم اور ساز و سامان میں ان سے بہت آگے تھیں۔ ترکوں کے ٹوپ خانے کا یورپ بھر میں کوئی جواب نہ دیتا تھا۔ سلیمان اپنی فوجوں کے آرام و آسائش اور اخلاق پر کڑی نگرانی رکھتا تھا۔ سلطان خود بھی بڑا جنگجو اور بہادر تھا، اور ہر جنگ میں بذات خود شامل ہوتا تھا۔

بہادری، شجاعت اور فوجی قابلیت کے ساتھ ساتھ سلطان کو عمارتوں کا بھی خاص شوق تھا۔ اس نے قسطنطنیہ، بغداد، دمشق اور دوسرے شہروں

میں نہایت خوبصورت اور عالی شان عمارتیں بنوائی تھیں۔ کئی مسجدیں تعمیر  
 کرائیں۔ قسطنطنیہ میں ایک بہت بڑی نہر بنوائی اور مکہ معظمہ کی پرانی نہروں  
 کی مرمت کرائی۔ ان کے علاوہ سلطنت کے تمام بڑے بڑے شہروں میں پستیا  
 اور پل تعمیر کرائے۔

سلیمان علم و فضل کا بھی بڑا قدردان تھا۔ وہ خود بھی اچھا ادیب اور  
 شاعر تھا۔ اس کا روزنامہ جو وہ ہر روز کے دوران میں لکھا کرتا تھا، بڑے  
 اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنے فرض کا کتنا احساس  
 تھا، اور سلطنت کے تمام ملکی اور فوجی معاملات پر اس کی کتنی توجہ تھی۔ سلیمان  
 نے بہت سے مدارس اور کالج بنوائے، اور عالموں کے منصب میں بڑا اضافہ  
 کیا۔ اس نے ان کے لئے یہ قانون بنا دیا کہ ان کی جائداد کسی صورت  
 میں بھی ضبط نہ کی جائے گی۔ غرض سلطان سلیمان اعظم ہر لحاظ سے لوگوں  
 کے بڑا شہنشاہ تھا۔

خیر الدین بابا

راوی





## خیر الدین پارہوسہ

پٹان کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جن پر کبھی ترکوں کی حکومت تھی۔ انہی جزیروں میں سے ایک جزیرے کا گورنر یعقوب خان ایک شخص تھا۔ اس کے چار بیٹے تھے۔ اسحاق، الیاس، عروج اور خضر۔ بعد کو خیر الدین مشہور ہوا۔ اسحاق نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اور بہت دولت کمائی۔ باقی تینوں بھائی بہت بربق اور دلیر تھے۔ انہوں نے بحری مشاغل پسند کئے۔ اور اس زمانے کے دستور کے مطابق انکا دکان اور کمزور جہازوں پر حملے کر کے انہیں لٹے لٹے۔ اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد الیاس ایک جنگ میں مارا گیا مگر عروج اور خیر الدین نے اپنا مشغہ جاری رکھا۔ عروج چونکہ خیر الدین سے بڑا تھا، اس لئے اس چھوٹے سے بیڑے کا جو تینوں بھائیوں نے تیار کیا تھا، مالک اور سردار تھا۔

رفتہ رفتہ اس نے بہت ترقی کر لی۔ اب یونانی جزیے اس کی ترک تازہ  
 کے لئے کافی نہ تھے۔ اس لئے اسے اپنے حوصلوں اور خواہشوں کو پورا  
 کرنے کے لئے ایک وسیع میدان کی ضرورت پڑی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب  
 اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور ہزاروں مسلمان وہ ملک  
 چھوڑ کر افریقہ کے ساحل پر آ رہے تھے تاکہ وہیں مستقل رہائش اختیار کر لیں  
 ان بے کس مسلمانوں کے پیچھے عیسائی بحری ڈاکو پڑ جاتے تھے، اور ان  
 کو لوٹ کر مار ڈالتے تھے۔ عروج کو اپنے لئے ایک وسیع میدان کی ضرورت  
 تھی۔ اُس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنا چھوٹا سا بیڑا افریقہ کے ساحل  
 پر لے آیا۔ یہاں اتفاق سے اسے ایک چھوٹی سی مگر مستحکم بندرگاہ حلق الیہ  
 مل گئی۔ جس میں ایک چھوٹا سا قلعہ بھی تھا۔ عروج نے اس بندرگاہ کو اپنے  
 مرکز بنایا۔ یہیں سے وہ اُن عیسائی لٹیروں کا خاتمہ کرتا تھا، جو اسپین کے  
 مسلمانوں کو لوٹنے کے لئے ان کا پیچھا کرتے تھے۔

جب عروج نے اپنی قوت اور بڑھالی، تو اُس نے ٹولنس کے سلطان  
 سے درخواست کی کہ اسے شاہی ملازموں میں شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ  
 سلطان نے ٹولنس کی تمام بندرگاہیں اس کے لئے کھول دیں، اور اُن کو  
 حفاظت کا ذمہ دار اُس کو ٹھہرایا۔ عروج نے وعدہ کیا کہ وہ مالِ غنیمت  
 پنچواں حصہ شاہی خزانہ میں داخل کر دیا کرے گا۔ اس کا فیصلہ ہوتے ہی

زوج نے بحری بیڑے اور ہندو گاہوں کی تنظیم شروع کی، اور تھوڑے ہی  
 رصہ میں اس بیڑے کو بہت طاقتور بنا دیا۔ اس کے بعد اس نے وہ کارنامے  
 سرانجام دیئے جنہیں دیکھ کر یورپ اور عیسائیوں کے دل دہل گئے۔ سب سے پہلے  
 اس نے یورپ کے عیسائی بیڑے کو زبردست نقصان پہنچایا۔ پھر اس نے تمام  
 عیسائی دنیا کے مذہبی پیشوا جناب پوپ کے بحری بیڑے پر حملہ کیا۔ اس بیڑے  
 آج تک کسی کو حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ اگرچہ عروج کا بیڑا اس کے  
 مقابلے میں بہت کم حیثیت رکھتا تھا لیکن عروج نے کچھ ایسی بہادری اور  
 لنگی قابلیت کا ثبوت دیا کہ پوپ کے بیڑے کو شکست فاش ہوئی اور اس  
 کے تمام افسر قیدی بنائے گئے۔ اب عروج نے اسپین سے مقابلہ کرنے  
 کے لئے ایک زبردست بحری بیڑا تیار کیا۔ اس زمانے میں اسپین کی  
 بحری قوت کی یورپ بھر میں دھماکہ مچھٹی ہوئی تھی۔ جبرالٹر کے پاس  
 دونوں بیڑوں کا مقابلہ ہوا جس میں عروج کو فتح حاصل ہوئی۔

اب عروج کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا۔ پھر کچھ حالات ایسے  
 پیش آئے کہ عروج نے افریقہ کے ایک دوسرے ملک الجزائر کو بھی فتح کر  
 لیا۔ اس کے بعد عروج نے اور کئی بحری لڑائیاں لڑیں جن میں سے ایک  
 دو میں اسے شکست بھی ہوئی لیکن اس کی ناموری اور بہادری میں کوئی  
 فرق نہیں آیا۔ اور یورپ کی سلطنتیں اس کے بحری بیڑے سے خوف کھاتی

رہیں۔ آخر اسپان سے ایک جنگ میں لڑتے ہوئے عروج نے شہادت پائی۔  
 اگرچہ عروج کو کوئی بیٹا نہیں تھا مگر اس نے اپنا جانشین ایک  
 شخص کو چھوڑا، جس پر مسلمانوں کو ہمیشہ ناز رہے گا یعنی اپنا چھوٹا بھائی خیر الدین  
 باربروسہ۔ خیر الدین بھی بڑا دلیر اور بہادر رہتا تھا۔ اس نے ملکی اسٹاکس کا سارا  
 بھی بہت پایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس قدر دانشمند اور عاقبت انداز  
 تھا کہ کوئی کام بغیر سچے سمجھ نہ کرتا تھا۔ وہ کبھی ایسی لڑائی میں نہ پھرتا  
 میں کامیابی مشتبہ ہوتی۔ ۱۱۹۶ء میں جب الجزائر کی حکومت اپنے اتھ  
 لی، تو سب سے پہلے ایک قاصد سلطان سلیم کی خدمت میں قسطنطنیہ بھیجا۔  
 خوب معلوم تھا کہ ترکی اس وقت سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے،  
 اس کی خدمت کرنا گویا مسلمانوں کی خدمت کرنا ہے۔ قاصد کے ہاتھ  
 بھیجا گیا تھا، اس میں خیر الدین نے لکھا تھا کہ اس نے الجزائر اس غرض  
 فتح کیا ہے، کہ اسے ترکی سلطنت میں شامل کیا جائے۔ اس لئے وہ سلطان  
 کی حمایت اور مدد کا ہر طرح مستحق ہے۔ سلطان سلیم نے اس کے جواب  
 خوشنودی کا اظہار کیا، اور خیر الدین کو الجزائر کا گورنر مقرر کر کے معمولی نشانی  
 گورنری یعنی تھرا، توارا اسپ وغیرہ عطا فرمائے، اور دو ہزار بہادروں  
 ایک چھوٹی سی فوج بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی  
 جب خیر الدین حکومت کی بنیاد مستحکم کر چکا، تو وہ اپنے اپنے

بن کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ خبر سن کر اسپین نے خود پیش قدمی کی، اور ایک بڑا  
 ارتو بیڑا جس میں سچاس جنگی ادس شاہی اور بے شمار بار برداری کے  
 زتھے روانہ کئے۔ مگر خیر الدین کی شجاعت اور جنگی قابلیت کے سامنے کوئی  
 سانس نہ گئی اور یہ سارا بیڑا سمندر میں غرق ہو گیا۔

یہ عظیم الشان فتح گویا تمام کامیابیوں کی کنجی تھی۔ اس کے بعد خیر الدین  
 تارہ بند سے بلند تر ہوتا گیا۔ سال میں دو دفعہ وہ اپنے اٹھارہ جہازوں  
 کے بیڑے کو لے کر اسپین کے ساحل پر حملہ کرتا اور مسلمانوں کو چھڑا  
 لاتا۔ بڑے بڑے نامی دلیر اس کی بہادری کا شہرہ سن کر ہر طرف سے  
 اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اکثر علیحدہ علیحدہ اور کبھی آپس میں  
 کوزحروم کا چکر لگاتے تھے اور مسلمانوں کے ہر دشمن کو نیچا دکھاتے  
 تھے۔ کوئی چیز ان کے حملہ سے محفوظ نہ تھی۔ نہ تو تاجروں کے جہاز متقابلہ کی  
 وقت رکھتے تھے اور نہ اسپین کے جنگی بیڑے۔ ان وقت شاہ پارسیوں پر  
 سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ مگر اس کا بیڑا بھی بحیرہ روم میں آنے کی جرات  
 نہ کر سکتا تھا۔ پھونک کر قدم رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ ہوتی تھی کہ جہاز رازے  
 تھے، بادبان بھتر بھراتے تھے، مستول بناتے تھے۔ اور کپتانوں کو دھڑکا لگا  
 ہوتا تھا کہ اب خیر الدین کا بیڑا آیا، اب خیر الدین کا بیڑا آیا، پورپ یا اولیہ  
 نا کوئی بہادر اس کی ہمسری کا دم نہ بھرسکے گا تھا۔ جس کام پر وہ ہاتھ ڈالتا تھا

کامیابی اس کے قدم چومتی تھی۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا تھا، فتح و نصرت از  
استقبال کرتی تھی۔ اس کا خاص سیرا بھی دن بدن ترقی کر رہا تھا، اور اب اس  
میں چھیا سٹھ جنگی جہاز شامل تھے۔ الجزائر میں بھی خوش حالی اور فارغ البالی  
دور دورہ ہو گیا تھا۔ یہاں کی بندرگاہیں، گودام، کارخانے وغیرہ ہر وقت پرزور  
دکھائی دیتے تھے۔

انہی دنوں سلطان سلیم کی وفات کے بعد سلطان سلیمان اعظم ترکی  
تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اس وقت عیسائی ریاستوں اور ملکوں کی سرک  
میں مشغول تھا۔ اسے بحری بیڑے کے لئے کسی تجربہ کار شخص کی ضرورت  
ایک تو کئی چھوٹے چھوٹے جزیرے بحری فوج کی مدد کے بغیر فتح نہ ہو  
تھے، دوسرے یورپ کا مشہور امیر البحر جنرل ڈوریا قسطنطنیہ کے مہلک  
میں اکثر حملے کرتا رہتا تھا۔ سلیمان کی نظر انتخاب خیر الدین پر پڑی  
۱۵۳۵ء میں اس کی خدمات الجزائر سے قسطنطنیہ میں منتقل ہو گئیں۔ اور سلطان  
نے خیر الدین کو ترکی کا امیر البحر مقرر کر دیا۔

خیر الدین الجزائر سے روانہ ہوا، اور راستے میں اپنے دشمنوں کو  
دکھاتا سا لوتیکا میں لشکر انداز ہوا۔ اور اپنے آنے کی باقاعدہ اطلاع  
بھیج دی۔ سلطان کی طرف سے ایک وفد استقبال کے لئے بھیجا گیا جسکے  
سرانے کا دیوان خاص و عام بڑی شان و شوکت سے سجایا گیا۔ وہاں

امیر وزیر جمع ہوئے۔ خود سلطان سلیمان ایک درتھے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں خیر الدین کا بیڑا آنا ہوا دکھائی دیا اور چند منٹ میں شاہی اسٹیشن میں پہنچ گیا۔ عسکری سرائے میں اس روز ول چپ نظارہ تھا خیر الدین اپنے اٹھارہ کپتانوں کے ساتھ سلطان کے سامنے دست بستہ کھڑا تھا حاضرین اس کو بڑی حیرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اُس کو، جس کی ہمت اور دلیری نے یورپ کے سر جھکا دیئے تھے۔ سلطان نے بھرے دربار میں خیر الدین کو ترکی امیر البحر کا خطاب دے کر شعبہ بحری کا نگران اعلیٰ مقرر کر دیا۔

خیر الدین بغیر وقت ضائع کئے اس شعبہ کی اصلاح میں مصروف ہو گیا۔ وہ صرف امیر البحر ہی نہیں تھا بلکہ جہاز کے تمام بیج پرزوں سے پوری طرح واقفیت رکھتا تھا۔ اور اعلیٰ درجہ کا جہاز ساز بھی تھا۔ اس نے پہلی نظر میں وہ خرابیاں دریافت کر لیں، جو اکثر ترکی بیڑوں کی ناکامی کا باعث ہوتی تھیں۔ مثلاً جہازوں کے بادبان جلدی جلدی حرکت نہیں کر سکتے تھے اور جہاز بھی سبک رفتار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ جہاز کے کپتان اور کام کرنے والے ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں جہاز کے پوشیدہ کئی ٹہروں سے ذرا بھی واقفیت نہیں تھی۔ خیر الدین نے اپنی خاص نگرانی میں ایک نیا کارخانہ کھولا۔ اس میں نہ صرف نئے جہاز بنے جاتے تھے بلکہ

کارنگروں کو ہماز رانی کی تعلیم و تربیت بھی دی جاتی تھی۔ خیر الدین بھی اکثر خود کارنگروں میں شریک ہو کر کام کرتا تھا۔ ایک سال میں اُس نے اسی جنگی ہماز تیار کر لئے۔ اس طرح اٹھارہ اپنے اور پانچ اور بلا کر چور اسی ہمازوں کا ایک بیڑا بن گیا۔

اس وقت شہنشاہ چارلس کے امیر البحر ڈوریا نے بحرِ روم میں مہل ڈال رکھی تھی۔ خیر الدین سب سے پہلے ڈوریا کے بحری بیڑے کی طرف متوجہ ہوا۔ مگر ڈوریا ایک محفوظ مقام میں کھسک گیا۔ خیر الدین نے کئی ساحلی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اور امیر البحر ڈوریا کو مقابلے کی ہمت نہ ہوتی اس کے بعد سلطان سلیمان نے اسے حکم دیا کہ وہ شمالی افریقہ کی مشہور بندرگاہ ٹیونس پر قبضہ کر کے اسے الجزائر میں شامل کر لے۔ خیر الدین نے اس حکم کی تعمیل کی۔ مگر ٹیونس کے سلطان حسن نے شہنشاہ چارلس سے جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، امداد کی درخواست کی۔ چارلس فوراً پانچ سو ہمازوں کا بیڑا اور تیس ہزار فوج لے کر ٹیونس پر حملہ آور ہوا۔ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ اگرچہ آسان نہیں تھا۔ مگر خیر الدین سے جو کچھ ہو سکتا تھا، اُس نے کیا۔ اور شاید اُسے کامیابی ہوتی مگر شہر والوں نے دغا کی اور آخر میں اُسے ٹیونس چھوڑنا پڑا۔ شہنشاہ چارلس بڑی شان و شوکت سے شہر میں داخل ہوا۔ اور اس کی فوج نے



س کے مسلمانوں پر سخت ظلم ڈھائے ۔  
 اس کے تھوڑے عرصہ بعد ترکی اور فرانس میں ایک معاہدہ ہوا  
 اس کی ایک شرط یہ تھی کہ کسی بیرونی حملہ کے وقت دونوں ملک ایک  
 دوسرے کی مدد کریں گے ۔ اب اتفاق دیکھئے کہ یہ معاہدہ ہونے زیادہ  
 سے نہیں گزری تھی کہ فرانس اور شہنشاہ چارلس کے درمیان جنگ  
 روغ ہو گئی ۔ معاہدہ کی شرط کے مطابق سلیمان نے فرانس کی مدد کی  
 خیر الدین کی سرکردگی میں ایک بیڑا چارلس کے خلاف بھیجا ۔  
 اس نے سب سے پہلے جزیرہ کارفو پر قبضہ کیا ۔ اور اس کے بعد  
 کئی جزیروں کو جو جمہوریہ وینس کے ماتحت تھے ، فتح کر کے سلطنت  
 کی میں شامل کر لئے ۔

ان کامیابیوں کو دیکھ کر چارلس نے ہنگری کے بادشاہ اور  
 جمہوریہ وینس کو اپنے ساتھ بلا کر ترٹوں کے خلاف ایجا کر لیا ، اور  
 سائبیریا کی بحری بیڑہ تیار کیا ۔ جس کی کمان امیر البحر ڈوریا کے  
 سپرد کی ۔ اور اس سے کہا کہ وہ ترکی کی بحری طاقت کو ہمیشہ کے  
 لئے ختم کر دے ۔ ڈوریا نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ضرور کرے گا ۔  
 اس کے بیڑے میں دو سو جنگی جہاز تھے ۔ ان جہازوں پر ساٹھ ہزار  
 چیدہ چیدہ سپاہی تھے ۔ اور ڈھائی ہزار توپیں ۔ کئی مشہور جرنل بھی

ڈوریا کی مدد کو آگئے تھے +

خیر الدین کو جب اس ایسے کی خبر ملی تو اگرچہ اس کی مجموعی قوت  
ایک سو چالیس ہزاروں سے زائد نہ تھی مگر وہ ذرا بھی ہراساں  
وہ بڑی جرات سے ڈوریا کے بیڑے کی طرف بڑھا۔ اور پرپور  
کے قریب ایک محفوظ مقام پر ٹھہر گیا۔ مخالف بیڑا بھی قریب ہی  
گیا۔ دونوں بیڑے کئی روز تک ایک دوسرے کے مقابلے  
ڈٹے رہے۔ آخر کار ایک صبح کو خیر الدین نے دشمن پر حملہ کر  
یہ حملہ ایسا سخت اور اچانک تھا کہ ڈوریا اور اس کے جرنیلوں  
ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آخر کار ایک گھسان کی لڑائی کے بعد ترکا  
کو کامل فتح ہوئی۔ دشمن کے بیسیوں جہاز گرفتار کر لئے گئے۔  
نقصان بھی بہت زیادہ ہوا +

یہ بہت بڑی فتح تھی جو خیر الدین کو امیر البحر ڈوریا پر ہو  
اس سے نہ صرف ترکوں کا بحری اقتدار تمام جنوبی یورپ میں  
ہو گیا۔ بلکہ یورپ کے آئندہ مقابلہ کرنے کے حوصلے بھی پست  
گئے۔ جب سلیمان اعظم کو اس فتح کی خبر پہنچی تو وہ بے انتہا خوش  
اس خوشی میں سارے شہر میں روشنی کی گئی خیر الدین کو خطا  
اور خلعت ملے۔ اور اس کی سالانہ تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا +

اس شکست کے بعد چارلس نے کوشش کی کہ الجزائر پر قبضہ کرے۔ اُس نے ایک بیڑا اس مقصد کے لئے روانہ کیا مگر اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔

اگلے سال فرانس اور چارلس میں پھر جنگ چھڑ گئی۔ فرانس نے ترکی بیڑے کی مدد سے شرنیس پر قبضہ کر لیا۔ اس مدد کے بدلے میں فرانس نے تولون کی بندرگاہ ترکوں کے حوالے کر دی۔ ایک عرصہ تک ترکی بیڑا تولوں میں مقیم رہا، اور جب پوری کاسیائی کے بعد قسطنطنیہ واپس ہوا، تو حکومت فرانس نے سپاہیوں کی تنخواہ کافی سامان سفر، پیش ہتھیار اور جنگ کے اخراجات ادا کئے۔ اور اس کے علاوہ چار سو سالانہ غلام جو فرانس میں سی ہزاروں پر خلاصی تھے آزاد کر دیئے۔

اب مشرق سے خربانگہ ترکی بیڑے کا راج تھا۔ بحرِ روم کے سبب جزیرہ ترکوں کے قبضہ میں آچکے تھے۔ یورپ کی ساری سلطنتیں ترکی سلطان کے سامنے سر جھکا تی تھیں۔ اس وقت کی تمام سمری طاقتیں خیرالدین سے زک اٹھا چکی تھیں۔ خیرالدین نے ترکی کی سمری طاقت کو انتہائی عروج تک پہنچا دیا تھا۔ یورپ کا سب سے طاقتور شاہ شاہ پارسی بھی اس کے مقابلے میں تنہا آئے سے ڈرتا تھا۔

نیس کی مہم سے فارغ ہو کر خیر الدین بھری مشاغل سے بالکل الگ ہو گیا۔ اور دو سال کے بعد جولائی ۱۵۴۶ء میں اس کا انتقال ہوا۔ اُسے بشک طائش میں دفن کیا گیا۔ اس کی قبر پر جو کتبہ لگا ہے اس میں یہ الفاظ کندہ ہیں: "ما ت أمیر البحر" ❖

انتقال کے وقت خیر الدین کی عمر نوے برس کے قریب تھی وہ کچھ زیادہ لمبا نہ تھا۔ مگر اس کا چہرہ بڑا پُر رعب اور وجہ یہ تھا بدن مضبوط اور گٹھا ہوا۔ ڈاڑھی اور پلکوں کے بال لمبے اور گنجان تھے۔ آنکھیں روشن اور دلیری اور اولوالعزمی کا پتہ دیتی تھیں۔ وہ بے حد بہادر تھا۔ مگر حملہ کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتا تھا۔ مگر ایک دفعہ جب حملہ کر دیتا تھا تو صفوں کی صفیں درہم برہم ہو جاتی تھیں ❖

حقیقت یہ ہے کہ خیر الدین اپنے زمانے کا سب سے بڑا امیر البحر تھا۔ اس میں اور بھی اچھی صفات تھیں۔ دشمنوں سے مہربانی کا سلوک کرتا تھا۔ اپنے ماتحت افسروں اور سپاہیوں کی خوشی اور آرام کا اسے ہمیشہ آرام رہتا تھا ❖

وہ ترکوں کا سچے دل سے جاں نثار اور بہی خواہ تھا۔ اس پر ترکوں کو ہمیشہ ناز رہے گا۔ سلطان سلیمان اعظم اس کی بڑی قدر

منزلت کرتا تھا۔ ہر کام میں اُس سے ضرور مشورہ لیتا تھا۔ ترک بھی اُس کی بے حد عزت کرتے تھے۔

اُس کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ رسم رہی کہ جب کوئی ترکہ کسی مہم پر روانہ ہوتا، تو اُس کی قبر پر قاضی پڑھتا اور اُس کی یاد میں ایک توپ سلامی سر کر کے بندرگاہ سے انگر اٹھاتا تھا۔





اورنگ زیب عالمگیر  
رفیق تجزیاتی





## ورنگ زیب عالمگیر

”میدان جنگ اور سخت خطروں میں بھی وہ نماز  
 قضا نہ کرتا تھا، اور وقت آتے ہی خدا کے حضور میں  
 اس طرح کھڑا ہو جاتا تھا کہ پھر ساری دنیا مقابلے  
 میں آجاتی، تو اسے مطلق پروا نہ ہوتی تھی کہ جو خدا  
 سے دل لگانا ہے وہ غیر اللہ سے کسب و کھانا ہے“

خاندانِ مغلیہ کے بادشاہوں نے ہندوستان پر تین سو سال تک  
 بڑی شان و شوکت اور رعب سے حکومت کی ہے۔ اس خاندان میں بڑے  
 بڑے بادشاہ ہوئے ہیں۔ مگر ان میں سب سے بڑا اور بچا مسلمان بادشاہ  
 اورنگ زیب تھا، اور اوپر کے الفاظ اسی کے بارے میں کہے گئے ہیں،  
 اس کا اصلی نام محی الدین تھا، اور اورنگ زیب لقب تھا، شاہ جہاں نے

عالمگیر کا خطاب دیا تھا۔ مگر یہ عام طور پر اپنے لقب ہی سے مشہور ہے  
 اورنگ زیب ۴ نومبر ۱۶۱۸ء کو مالوہ کی سرحد پر ایک چھوٹے سے  
 میں پیدا ہوا۔ یہ شاہ جہاں کا تیسرا بیٹا تھا۔ آٹھ برس کی عمر سے اسے  
 باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ بڑے بڑے عالم اس کے استاد تھے۔  
 فارسی اس نے بہت جلد سیکھ لی۔ آپ کو یمن کرنا یاد تھا کہ مغل  
 میں اورنگ زیب پہلا بادشاہ تھا جس نے قرآن شریف حفظ کیا۔ اُس  
 فقہ اور حدیث کے بھی بڑا لگاؤ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اُس نے گھوڑے  
 سواری، تیر چلانا اور فن جنگ میں بھی کمال حاصل کیا۔ وہ ابھی چودہ  
 کا تھا کہ ایک بار شاہ جہاں مست ہاتھیوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا۔ اچانک  
 ایک ہاتھی لڑائی سے کچھ کتر آیا۔ دوسرے نے پیچھا کیا۔ مگر دو غبار کی  
 آس پنا دشمن ہاتھی نظر نہ آیا۔ وہ اس طرف دوڑا جس طرف اورنگ  
 گھوڑے پر سوار موجود تھا۔ وہ ذرا نہ گھبرایا اور اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ جب  
 قریب پہنچا، تو اورنگ زیب نے تیر چلایا۔ ہاتھی غصہ سے لال پیلا ہو گیا  
 نے جھلا کر گھوڑے کو سونڈ میں لپیٹ لیا۔ اورنگ زیب گھوڑے  
 پڑا۔ اور تلوار نکال کر ایک ایسا وار کیا، کہ ہاتھی کی سونڈ ٹک گئی اور  
 بھاگ نکلا۔ شاہ جہاں بہت خوش ہوا اور اورنگ زیب کو اشراف  
 میں تلوار کراشرفیاں خیرات کر دیں۔

ستو برس کی عمر میں اُسے دکن کا صوبے دار مقرر کیا گیا۔ یہاں اس کی  
دری کے جوہر خوب چمکے۔ اس نے کئی سرکشیوں کی بغاوتوں کو دیا یا، اور دکن  
یہاں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، امن و امان قائم کر دیا۔ اس کے بعد اُسے  
رات کا صوبے دار بنایا گیا۔ اور یہاں سے بلخ کی مہم پر روانہ کیا گیا۔ وہاں کئی  
لڑائیوں میں اُس نے سب سے سالاری اور جانا بازی کے جوہر دکھائے۔ ایک مرتبہ  
ننگھان کی جنگ میں تیروں کی بارش سے بے پروا ہو کر نماز ظہر ادا کی۔  
کا بادشاہ یہ دیکھ کر بے اختیار پکارا: ایسے آدمی سے لڑنا خدا سے جنگ  
رنا ہے۔ چنانچہ دونوں میں صلح ہو گئی۔ اور اورنگ زیب واپس چلا آیا۔  
واپس آنے کے بعد اُسے پھر دکن کا صوبے دار بنا کر بھیجا گیا جہاں  
کی حالت پھر بڑی خراب ہو گئی تھی۔ مگر تین چار سال ہی کے عرصہ میں  
اس نے یہاں کی حالت بدل ڈالی۔ خشک کھیتیاں سہری ہو گئیں۔ بہت  
سے بنجر علاقے سرسبز نظر آنے لگے۔ صنعت و حرفت اور تجارت میں ترقی  
ہوئی۔ غرض امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ آمدنی بڑھی، تو  
زوج میں اضافہ ہوا۔ اور اسے نئے ہتھیاروں سے لیس کیا گیا۔ جب  
سب کچھ درست ہو گیا، تو اُس نے یہ مہم اپنے ریاستوں کی طرف توجہ کی۔ اس  
وقت وہاں دو خود مختار ریاستیں بیجا پور اور گولکوتڑہ تھیں۔ شاہ جہاں یہ  
نہیں چاہتا تھا کہ ان پر خواہ مخواہ قبضہ کر لیا جائے۔ مگر ان ریاستوں کے

بادشاہ بڑے بدعہد تھے، اور اکثر منگولوں کے دشمنوں کی مدد کرتے رہے جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس وقت گو لکنڈہ کا بادشاہ عبدالمتقا تھا۔ مغل بادشاہوں کی طاقت کو دیکھ کر اس نے سالانہ خراج دینے کو رکھا تھا مگر اکثر بدعہدی کرتا تھا۔ اُس نے کئی سال سے خراج نہ دیا تھا۔ جب اُسے لکھا گیا کہ خراج ادا کرو، تو اُس نے کوئی پروا نہ سمجھو رہو کر اورنگ زیب گو لکنڈہ کی طرف بڑھا، اور دارالخلافہ حیدرآباد چاروں طرف کے گھیر لیا۔ گو لکنڈہ کی فتح بڑھی آسان تھی۔ مگر اتنے میں آئی کہ شاہجہاں سحت بیمار ہے اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔

شاہجہاں کے چار بیٹے تھے۔ داراشکوہ سب سے بڑا تھا، اور اُس کے ساتھ دارالخلافہ ہی میں رہتا تھا۔ جب بیماری کی خبر پھیلی، تو چاروں بھائیوں میں تخت و تاج کے لئے جنگ چھڑ گئی۔ اس کا سارا حال بڑے چاہتا ہے۔ مگر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں اورنگ زیب کا کوئی قصور اس سلسلہ میں کئی لڑائیاں ہوئیں۔ مگر ان میں سے قصبہ ساموگرٹھ قریب دارا اور اورنگ زیب کے درمیان جو لڑائی لڑی گئی، وہ بہت اہم ہوئی اور اُس نے فیصلہ کر دیا کہ تخت کا حقدار کون ہے۔ ساموگرٹھ سے پچیس میل کے قریب جنوب مشرق میں واقع ہے۔ داراشکوہ ایک سپاہی جن میں ساٹھ ہزار سے زیادہ من چلے سوار تھے میدان میں لایا تھا۔

زیمب کے پاس پینتیس ہزار سے زیادہ سپاہی نہ تھے۔ پہلے ہی حملہ سے زیمب کی فوجوں میں کھلبلی مچ گئی۔ مگر اورنگ زیب میدان میں ہٹا لیا کا دل بڑھا رہا تھا۔ اس نے اپنی بہادری اور جوانمردی سے تنگنی بیلاروک لیا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ لڑائی بہر چند سپاہی لڑتے ہیں کا فیصلہ بہت کچھ سپہ سالار کی قابلیت اور جرأت پر ہوتا ہے۔ آخر اُسے اور دارا شکوہ بھاگ گیا۔

اس کے بعد بہت کچھ ہوا جس کے ذکر کا یہاں موقع نہیں۔ بس اتنا بتائے کہ تمام رکاوٹوں کو دور کر کے ۱۶۵۹ء میں اورنگ زیب تخت پر تاجپوشی کی رسم پر بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا۔

اگرچہ اورنگ زیب کے عہد میں کئی نئے علاقے فتح ہوئے اور سلطنت بڑھتی ہوئی مگر اس کا سب سے بڑا کارنامہ دکن کی بقیہ دونوں ریاستوں اور مرہٹوں کو ختم کرنا ہے۔ مغل شہزادوں کی خانہ جنگی کے زمانے میں کے بادشاہوں کو خاصی فرسوت مل گئی اور انہوں نے وہی پہلے شروع کر دیئے تھے یعنی سازشیں اور عیش و عشرت۔ البتہ دکن کے ورپہاڑوں کی ایک نئی قوم سیدان میں آرہی تھی۔ یعنی مرہٹے جن پر اورڈی، زبان آریائی اور وطن شمالی دکن سے مغربی گھاٹ کے نام پھیلا ہوا ہے۔ اس ہمارا شہر یا مرہٹہ علاقہ کا بڑا حصہ بیجاپور اور

احمد نگر کی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس قوم کے لوگ بڑے چالاک اور چھپ چھپا کر لڑنے والوں کہنے کہ قرآنہ جنگ میں بڑے ماہر تھے کے بعض سرداروں کو بیجا پور میں جاگیریں مل گئیں۔ ان میں امیر ساہو متاڑ تھا۔ اسے پونا اور سوپا کے پرگنے اور کرناٹک کا کچھ علاقہ ملا۔ لڑکا سیواجی تھا، جس کا نام بہت مشہور ہے۔ سیواجی کو بچپن ہی میں کی مشق کرانی گئی۔ جب ذرا بڑا ہوا تو اپنے ساتھ بہت سے لوگ لے اور آس پاس کے قصبوں کو ٹوٹنے لگا۔ جب اس کی کئی شکایتیں بیجا بادشاہ محمد عادل شاہ تک پہنچیں، تو اس نے اس کے باپ ساہو جی کو کر دیا۔ سیواجی نے شاہ جہاں کی خدمت میں اپنے باپ کی رہائی کی درخواست کی، اور شاہ جہاں کے حکم سے دربار بیجا پور نے ساہو جی کو رہا کر دیا۔ مگر برابر جاری رکھی۔ باپ کے قتل کئے جانے کے خوف سے سیواجی نے نئی شورش نہیں اٹھائی۔ مگر اپنی قوت برابر بڑھاتا رہا۔ اتنے میں شاہ کی بیماری پر منسل شہزادوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اور مہر عادل نے وفات پائی۔ اس سے شمال مغربی دکن اور بیجا پور میں ابتری پھیلائی۔ موقعہ اچھا تھا۔ سیواجی نے دُور دُور چھاپے مارے۔ کئی پرگنوں پر لیا۔ بیجا پور کے سپہ سالار فضل خاں کو دھوکے سے مار ڈالا۔ اس نے بادشاہ عادل شاہ نے فوج کشی کی تو پہاڑوں میں جا چھپا۔ اور آخر باپ کی نعش لائی۔

شرط پر معافی حاصل کر لی کہ ریاست بیجا پور میں لوٹ مار نہ کرے گا۔ مگر مشکل  
 تھی کہ اس وقت اس کے گروپ پاس ہزار سے زیادہ لیٹرے جمع ہو گئے تھے جنہیں  
 ملانے پلانے کے لئے پونا کی جاگیر کسی طرح کافی نہ تھی۔ چنانچہ وہ اورنگ آباد  
 کے قریب مغل علاقوں پر دست درازی کرنے لگا۔ مغل صوبے دار شائستہ خاں  
 نے فوج کشی کی۔ سیواجی پہاڑوں میں چھپ گیا۔ کون کے رب قلعے مغل  
 ج کے قبضہ میں آ گئے۔ شائستہ خاں نے پونا فتح کر لیا، اور خاص سیواجی  
 کی جوہلی میں مٹھرا۔ ایک اندھیری رات کو سیواجی چھپ کر آیا۔ اس کے ساتھ  
 چند خونی بھی تھے۔ انہوں نے سوتے میں شائستہ خاں پر تلوار چلائی۔ مگر وہ  
 جاگ اٹھا اور خونی بھاگ گئے۔ شائستہ خاں کو بڑی شرمندگی ہوئی اور اس  
 نے وہاں سے اپنا تپا لوہہ کرالیا۔ نئے صوبے دار شہزادہ معظّم نے بھی اس کا  
 ناطقہ بند کر دیا۔ آخر راجہ جے سنگھ کی سفارش پر سیواجی کو پھر معافی مل گئی۔  
 مگر مہٹوں کو تو لوٹ مار کی عادت پڑ گئی تھی۔ دو سال کے بعد اپنا نک سوت  
 کی بندرگاہ پر جہاں کر دیا۔ اور حاجیوں کو جو کہ شریف جانے کے لئے وہاں جمع  
 ہوئے تھے لوٹ لیا۔ اورنگ زیب کو اس پر سخت غصہ آیا۔ اس نے  
 دلیر خاں اور جے سنگھ کو انہیں سزا دینے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے کون کو  
 پامال کر ڈالا۔ اور ایسی ناکہ بندی کی کہ سیواجی کو چھپنے کے لئے بھی کوئی جگہ  
 نہ رہی۔ ایک روز وہ تنہا ان مانگنے شاہی لشکر میں آ گیا، اور اس کی اطاعت

قبول کر لی گئی۔ مگر اس کا سب سے اچھا علاقہ ضبط ہوا اور اس کی ریاست  
بیجاپور کی بجائے مغلوں کے ماتحت کر دی گئی۔ اگلے سال جب شاہی لشکر  
بیجاپور پر حملہ کرنے روانہ ہوا، تو سیوا جی کا بیٹا بھی مغل سپاہ کے ساتھ تھا  
بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اور سالانہ جشن میں شرکت کے لئے باپ بیٹا دونوں لائے  
بلائے گئے۔ وہاں انہیں پنج ہزاری کا منصب عطا ہوا۔ پھر کچھ غلط فہمی کی  
بدگمانی کی وجہ سے سیوا جی چھپ کر آگرے سے بھاگ گیا اور پونا پہنچ گیا۔  
اُسے احساس ہو گیا تھا کہ اگر مستقل ریاست قائم کرنی ہے تو مغلوں سے  
صلح کئے بغیر کام نہیں چلے گا۔ چنانچہ اُس نے ایک بار پھر بادشاہ سے معافی  
مانگ لی۔ اور آئندہ کئی سال تک مغلوں کے ہونے پر اپنی حکومت منظم کرتا رہا۔  
جب ساہونے وفات پائی تو اپنی راجگی کا دھوم دھام سے اعلان کیا۔  
کرناٹک میں باپ کی جو جاگیر تھی وہ بھی زبردستی اپنے بھائی سے چھین لی۔  
گو لکنڈہ کے نئے بادشاہ ابوالحسن نانا شاہ نے بھی اُسے بہت سی توپیں اور  
روپیہ دیا، اور یہ کئی دفعہ معافی مانگنے اور توبہ کرنے والا سیوا جی بیجاپور اور  
گو لکنڈہ کی شہ پر پھر مغلوں سے سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔  
اب کی مرتبہ اُس نے سرکشی تو کی مگر کسی بڑے پیمانہ پر لڑائی نہیں  
سے کتراتا رہا۔ سرحدی علاقہ پر کئی بار لوٹ مار کی مگر کسی نہ کسی طرح سے بچ جاتا  
رہا۔ اور اندرونی طور پر اپنی فوجی قوت بڑھالی، اور مرنے سے پہلے ایک نئی



مرہٹہ ریاست قائم کر گیا۔ جب وہ مراٹھوں کو سنبھالی اس کا جانشین بنا۔ یہ نا تجربہ کار تھا، اس لئے بیجا پور کے بادشاہ کے اُکسانے پر خاندیس میں جا گھسا، اور بڑھان پور کو لوٹ لیا۔ اب اورنگ زیب نے فیصلہ کر لیا، کہ مرہٹوں کا بالکل خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ مگر اس کے لئے لازمی امر یہ تھا کہ پہلے بیجا پور اور گو لکنڈہ کی ریاستوں پر قبضہ کیا جائے۔ جن کے روپے اور شہ سے مرہٹے سب کچھ کر رہے تھے۔ چنانچہ اُس نے ایک بڑا لشکر جمع کیا اور اس کو ساتھ لے کر اورنگ آباد پہنچ گیا۔

سب سے پہلے بیجا پور کی طرف توجہ کی گئی۔ اقول وہاں کے بادشاہ کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی گئی۔ مگر جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی، تو مغل فوجوں نے بیجا پور کے قلعہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ قلعہ بہت بڑا اور مضبوط تھا، اور اُس میں کھانے پینے کے سامان کی کمی بھی نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی علی عادل شاہ نے مرہٹوں کو اُکسایا اور گو لکنڈہ کو مدد پر بلا لیا۔ مگر اورنگ زیب کا محاصرہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا۔ آخر بیجا پور کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ وہاں کا بادشاہ مغل امیروں میں شامل کر لیا گیا، اور اس کی ریاست سلطنتِ مغلیہ کا حصہ بن گئی۔

اب گو لکنڈہ کی باری تھی۔ اس مہم کے لئے شہزادہ محمد غنیم کو مقرر کیا گیا۔ ابوالحسن نے مقابلہ کے لئے فوج روانہ کی۔ کئی مہینوں تک لڑائی

ہوتی رہی۔ آخر مغل فوجوں کو فتح ہوئی۔ اور شہزادہ محمد اعظم حیدرآباد میں داخل ہو گیا۔ جہاں اُس نے نرمی سے کام لیا، اور ابوالحسن سے چند شرطوں پر صلح کر کے حیدرآباد خالی کر دیا۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ ابوالحسن جو پہلے بھی خراج ادا کرتا تھا، خراج کاروپہ بڑھادے۔

ابوالحسن نے اپنی عادت کے مطابق خراج کاروپہ نہ روانہ کیا اور ٹال مٹول سے کام لپتارہا۔ آخر اورنگ زیب خود فوج لے کر وہاں پہنچا۔ ابوالحسن نے پچاس ہزار فوج مقابلے کے لئے روانہ کی اور اپنے سپہ سالار کو تاکید کی کہ جہاں تک ہو سکے، مغل بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے لائیں۔ مگر گولکنڈہ کی فوجوں کو لڑنے کا حوصلہ ہی نہ ہوا۔ انہوں نے کہیں بھی جھمکے مقابلہ نہیں کیا۔ مغل فوجیں حیدرآباد میں داخل ہو گئیں، اور گے بڑھ کر گولکنڈہ کے قلعہ کو گھیر لیا۔ یہ قلعہ بہت مضبوط تھا۔ بارشوں کی زیادتی اور کھانے پینے کے سامان کی کمی کے سبب مغل فوجیں بہت پریشان تھیں۔ قلعہ کو فتح کرنے کے دو ہی طریقے تھے۔ ایک تو یہ کہ سرنگ لگا کر فصیل اڑادی جائے، اور دوسرا یہ کہ موقعہ پا کر کچھ سپاہی اور چوہے جائیں، اور پھر ساری فوج حملہ کر کے قلعہ میں داخل ہو جائے مگر بارشوں کی وجہ سے سرنگ لگانے میں ناکامی ہوئی اور قلعہ پر چڑھنے کا کوئی موقعہ ہاتھ نہ آیا۔ آخر کار اورنگ زیب کے استقلال اور بہادری کے سامنے ابوالحسن

کی فوجوں نے حوصلہ ہار دیا۔ اس کے کئی سرداروں نے مغلوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اور ایک دن ایک سردار نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ مغل فوجوں نے اندر داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ نانا شاہ کے ساتھ کروڑ ہا پٹیلے نقد اور قیمتی جواہرات مغلوں کے ہاتھ آئے۔ یہ اس خراج کی رقم تھی کہیں زیادہ مالیت تھی، جس کے ادا نہ کرنے کے باعث اس پر حملہ کی آفت آئی اور آزادی کا خاتمہ ہوا۔

جب ان ریاستوں کا انتظام درست ہو گیا، تو اورنگ زیب نے مرہٹوں کی طرف توجہ کی۔ بیجا پور کے جنوبی علاقہ میں ادھونی کا مضبوط قلعہ سنبھاجی کا جنگی مرکز بن گیا تھا۔ اس سے وہ مغلیہ علاقوں پر چھاپے مارا کرتا تھا۔ فیروز جنگ کو اس طرف روانہ کیا گیا، جس نے ادھونی کو آسانی سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد اُس نے مرہٹوں کی راجدھانی راج گڑھ پیش قدمی کی۔ اس کے ایک سردار مقرب خاں نے ایک جگہ مرہٹہ فوج کو گھیر لیا۔ یہیں اُسے خبر ملی کہ سنبھاجی قریب ہی ایک جگہ موجود ہے۔ اس نے چند سپاہی ساتھ لئے اور وہاں پہنچ کر مرہٹوں کی فوج میں گھس گیا۔ مرہٹوں کی تعداد بہت زیادہ تھی مگر تھے ڈریک مغل سپاہیوں کو دیکھتے ہی دوڑ کھڑے ہوئے۔ سنبھاجی ایک مندر میں جا چھپا، اور اڑھی موچھ منڈوا کر بھیس بدل لیا۔ مگر اس پر بھی پکڑا گیا۔ جب مقرب خاں اسے

باندھ کر اپنے صدر مقام کی طرف لے چلا تو علاقے بھر کی بستیوں میں خوشیاں  
 منائی گئیں۔ سنبھاجی کے ظلم اور بد چلنی کی وجہ سے لوگ بہت تنگ تھے۔  
 جس گاؤں سے وہ گزرتا، عورتیں اور مرد باہر نکل آتے، اور اس کی گرفتاری  
 پر خدا کا شکر بجالاتے تھے۔ جب سنبھاجی اور ننگ زیب کے سامنے پہنچا تو  
 اُس نے بڑی بد زبانی کی اور اس جرم میں قتل کیا گیا۔ اس کا بیٹا ساہو  
 شاہی امیروں میں داخل ہوا۔ اور ننگ زیب نے خاص طور سے اس کی  
 پرورش کی اور وہ بھی عمر بھر اس احسان کرنے والے بادشاہ کو عزت سے  
 یاد کرتا رہا۔

سنبھاجی کے بعد اس کا بھائی رام راجا گڈی پر بیٹھا۔ اُس نے  
 جنجی نامی ایک قلعہ کو اپنا فوجی مرکز بنا کر اُسے بہت مضبوط کر لیا۔ میرٹھوں  
 کا خیال تھا کہ اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ مگر ایک مغل سردار نے اس کی  
 اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ راجا رام چار سال تک ادھر ادھر پھرتا رہا۔  
 کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ ٹک سکے۔ اسی حالت میں وہ فوت ہو  
 گیا۔ اب مرہٹہ قزاقوں کے گروہ مغل علاقوں میں نہ ٹھہر سکے۔ بہت سے  
 گھر کر قبضہ ہوئے۔ چونچ رہے وہ کون کے پہاڑی قلعوں میں جا چھپے مگر  
 اور ننگ زیب کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ مرہٹے  
 کہیں بھی چھوٹی سے چھوٹی حکومت بھی قائم نہ کر سکیں۔ مغل سردار کون

کی پڑیچ وادیوں میں فوج لے جانے سے گھبراتے تھے۔ اور واقعی گھبرانے  
 کی بات بھی تھی۔ وہاں بارش سے راستے ندی نالے بن جاتے تھے۔ ہر موڑ  
 مرہٹوں کی کمین گاہ تھا، اور ہر چٹان ان کا قلعہ۔ آخر بادشاہ نے یہ ہم اپنے  
 ذمہ لی۔ اس وقت اُس کی عمر ۸ برس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ مگر بہت او  
 جرات میں فرق نہ آیا تھا۔ ۱۶۹۸ء میں یہ ہم شروع ہوئی۔ اس سلسلہ میں  
 جو لڑائیاں ہوئیں، اور ان میں بادشاہ نے جس جو صلہ اور بہادری کا ثبوت  
 دیا۔ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ مقابلہ صرف مرہٹوں سے نہ تھا بلکہ بارش  
 کے طوفانوں اور گزار گزار پہاڑی راستوں، جنگلوں اور سبلاہوں سے بھی لڑائی  
 تھی۔ مکمل فتح میں پانچ سال لگے، اور اس عرصہ کے لئے پوڑھے بادشاہ  
 یہ بچھا دیا، کہ آرام و آسائش بھی کوئی چیز ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے ایک  
 ایک قلعہ فتح ہوا۔ ان میں سے بہت سے تو توڑ دیئے گئے اور باقی قلعوں میں  
 مغل فوجیں رکھی گئیں۔ مرہٹے تتر بتر ہو گئے۔ اور رنگ زیب کی زندگی میں  
 انہوں نے کوئی فتنہ نہ اٹھایا۔ تمام ملک میں امن و امان کی منادی کراوی  
 گئی کہ جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ واپس آجائیں کیونکہ  
 اب مرہٹوں کا پوری طرح خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب چند میل زمین بھی ایسی نہ  
 رہی تھی، جہاں مرہٹوں کی خود مختار حکومت باقی ہو۔  
 جب یہ عظیم الشان کام ختم ہوا تو اورنگ زیب احمد نگر آ گیا۔ یہاں

ایک سال سے زیادہ کھٹرا رہا۔ اور شامہ میں مختصر سی بیماری کے بعد انتقال کیا۔ وفات سے چند گھنٹے پہلے جب کہ دمہ کا دورہ تھا یہ وصیت لکھی کہ تجھ پر تکفین میں سڈ کے خلاف کوئی رسم ادا نہ کی جائے۔ خواجہ برہان الدین غریب کے پائیں باغ میں دفن کیا جائے، اور کوئی پکی قبر یا گنبد نہ بنایا جائے جس وقت جنازہ احمد نگر سے خلد آباد لائے، تو راستہ پر دونوں طرف لوگ کھڑے آنسوؤں کے موتی بچھا کر رہے تھے، اور ہزار ہا امیر و وزیر اور سپاہی روتے ہوئے ساتھ تھے۔ اس کی قبر کی زیارت کرنے جائیے تو دل پر عجیب اثر ہوتا ہے۔

اورنگ زیب کی بہادری اور دلیری میں کسی کو کلام نہیں۔ خاندان مغلیہ

میں بابر سے اورنگ زیب تک ہر بادشاہ بہادری اور جرات میں ممتاز تھا۔ اکبر کو مست ہاتھیوں سے لڑنے کا بہت شوق تھا۔ شاہجہاں نے شہزاد کے زمانے میں تلوار سے شیر مارا تھا۔ اورنگ زیب کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے، کہ کس طرح چودہ سال کی عمر میں اُس نے تلوار کے ایک وار سے مست ہاتھی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ جب ساموگڑھ کے مقام پر اورنگ زیب اور دارا کی فوجوں میں لڑائی ہوئی، جس کا ذکر ہو چکا ہے تو اورنگ زیب کی فوج صرف تیس ہزار تھی، اور دارا کی ایک لاکھ سے زیادہ۔ لڑائی شروع ہوئی، تو اورنگ زیب کے ساتھ صرف ایک ہزار آ

رہ گئے۔ حالت بڑی نازک ہو گئی۔ قریب تھا کہ اُسے شکست ہو جاتی۔  
 مگر وہ اکیلا ڈٹ کر کھڑا تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ اس کے ہاتھی  
 کی ٹانگیں زنجیروں سے باندھ دی جائیں۔ اس سے زیادہ بہادری اور  
 بے خوفی کی مثال کہاں مل سکتی ہے۔ صرف اورنگ زیب کی بہادری  
 ہی تھی جس نے ایک ہزار کو ایک لاکھ پر فتح دی۔ جب اسی سال کا  
 بوڑھا اورنگ زیب مرہٹوں کے خلاف لڑ رہا تھا، تو ایک دن مرہٹوں  
 نے ایک سُرنگ اڑادی جس سے بہت سے سپاہی مارے گئے اور فوج  
 میں گر بڑ پھیل گئی۔ یہ سنتے ہی وہ جھٹ گھوڑے پر سوار وہاں آیا  
 اور سپاہیوں کو تسلی دی۔ وہ چاہتا تھا، کہ مرہٹوں پر حملہ کرنے میں  
 سب سے آگے رہے لیکن بڑی مشکل سے اُس کو اس ارادے باز رکھا  
 گیا۔ راجہ جیونت سنگھ کے مرنے کے بعد جب راجپوتوں نے بغاوت  
 کی، تو اورنگ زیب خود راجپوتانہ پہنچا، اور اپنے بیٹے شہزادہ اکبر کو شاہی  
 فوجوں کا سپہ سالار مقرر کیا۔ مگر راجپوتوں نے بڑی چالاکی سے اکبر  
 کو بادشاہت کا لالچ دے کر اپنی طرف کر لیا، اور وہ ستر ہزار سپاہی لے کر  
 اورنگ زیب پر پلٹ پڑا۔ اورنگ زیب کے پاس صرف ایک ہزار سپاہی  
 تھے۔ مگر وہ ذرا بھی پریشان نہ ہوا۔ اور شہزادہ اکبر کو شکست کھا کر بھاگنا  
 پڑا۔ اورنگ زیب کے زمانے میں بارہ کے مسید بڑے بہادر گئے جاتے

تھے۔ فوج میں بھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک بار ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اورنگ زیب نے حکم دیا کہ قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کر سیدوں نے کہا۔ ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ اورنگ زیب یہ سن کر بڑے برہم ہوا، اور کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر حکم دیا کہ پرے غم پر جتنے سید ہیں سب برخواست کر دیئے جائیں۔ سیدوں کا سارا غرور جا رہا۔ اورنگ زیب کا بیٹا شہزادہ اعظم بڑا بے خوف اور دلیر تھا۔ مگر اپنے باپ سے اس قدر ڈرتا تھا کہ جب اس کا خط آتا تو شہزادے کا رنگ نہ رہتا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں اورنگ زیب جیسا نیک اور عبادت کرنے والا اور کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ وہ بڑا پکا نمازی تھا۔ ہفتہ میں چار دن روزہ رکھتا تھا۔ اور رمضان کی ساری راتیں عبادت میں گزار دیتا تھا۔ اس کی اپنی زندگی نہایت سادہ تھی۔ وہ خزانہ سے اپنے خرچ کے لئے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ اپنا گزارہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن شریف لکھ کر کرتا تھا۔ اورنگ زیب کو ظلم اور بے انصافی سے بڑی نفرت تھی۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی، کہ کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ فریادیوں کے اس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ وہ ان کی درخواستیں پڑھتا اور مقدموں کا فیصلہ کرنے میں امیر، غریب، آقا اور غلام کی ذرا بھی تمیز نہ کرتا۔ اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلتی تھی۔ اس کے انصاف کے لیے شاہ



نہ لے مشورہ ہیں :

اُسے کبھی غصہ اور طیش نہیں آتا تھا۔ اکثر نرمی سے کام لیتا تھا مگر  
 عنّت ضرورت کے وقت سختی بھی کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ بادشاہ کو نرمی  
 پر سختی کے درمیان کھڑا ہونا چاہئے۔ نہ زیادہ نرمی کرنی چاہئے نہ زیادہ سختی  
 زیادہ نرمی ہوگی، تو لوگ بے پروا ہو جائیں گے، اور زیادہ سختی ہوگی، تو  
 نہیں بادشاہ سے نفرت ہو جائے گی، اور یہ دونوں باتیں بڑی ہیں۔ وہ اپنے  
 سروں سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا، اور ہمدردی بھی بہت تھا۔ وہ اپنی  
 رعایا سے چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان برابر کا سلوک کرتا تھا۔ اُس کے  
 مدین ہر ایک کو ذمہ داری حاصل تھی۔ وہ جس طرح مسجدوں کی <sup>نظارت</sup> <sub>نظارت</sub>  
 کرتا تھا، اسی طرح مندروں کی بھی کرتا تھا۔ اس کے زمانے کے کئی فرمان <sup>ملے</sup>  
 میں اجن سے پتہ چلتا ہے کہ اُسے اپنی ہندو رعایا کا کس قدر خیال تھا۔ اس  
 نے کئی مندروں کے خرچ کے لئے جاگیریں بھی وقف کر دی تھیں۔ اس  
 کے متعلق یہ جو کہا جاتا ہے کہ اُس نے مندر برباد کر دیئے تھے بالکل <sup>غلط</sup>  
 اورنگ زیب نے جنگوں اور فتوحات کے ساتھ ملکی انتظام بھی درست  
 کیا۔ ہر محکمہ میں ایک نئی روح چھونک دی۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک  
 ہر عمدہ دار اور افسر اپنی جگہ چوکس اور اپنے فرض کی ادائیگی میں لگ گیا۔ صوبوں  
 کے ہر بڑے شہر اور قلعوں سے باقاعدہ ہفتہ وار اُسے اطلاعات پہنچتی تھیں۔

انہیں وہ خود پڑھتا اور مناسب احکام دیتا تھا۔ معمولی سے معمولی شکایت کو فوراً دور کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایک معمولی چوکیدار اور کاشتکار کی تکلیف کی خبر فوراً اُسے دور کیا گیا۔ محکمہ مالگزاروں کی طرف خاصی توجہ دی گئی۔ بددیانتوں کو برطرف کر دیا گیا۔ ان میں سے جن افسروں نے معافیاں مانگیں اور آئندہ سے کام کرنے کی قسمیں کھائیں انہیں بجال کر دیا گیا۔ اس نتیجہ کا نتیجہ یہ نکلا مالگزاروں پہلے سے بڑھ کر تقریباً دو گنی ہو گئی۔

جشن تاجپوشی کے موقع پر کئی رسمیں شرع کے خلاف ہوتی تھیں۔ ان سب کو موقوف کر دیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی نگرانی کے لئے ایک قائم کیا اور زکوٰۃ کی وصولی کا باقاعدہ انتظام کیا گیا۔ جن سیاحوں نے اس وقت میں ہندوستان کا سفر کیا ہے، وہ سب لکھتے ہیں کہ ملک میں ہر طرف خوش کا فور دورہ تھا۔ لوگ خوش تھے۔ چیزیں نہایت ارزاں تھیں اور تجارت خوب زوروں پر تھی۔

غرض مدت بادشاہی اور سلطنت کی وسعت دونوں اعتبار سے اورنگزیب تاریخ ہندوستان کا سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اُس نے پچاس سال زیادہ حکومت کی۔ کابل سے آسام اور کشمیر سے کابری تک اس کے نام کا چلا اور ہر مسجد میں خطبہ پڑھا گیا۔

طیو سلطان

میسور



## ٹیپو سلطان

”گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک  
دن کی زندگی اچھی ہے!“

یہ الفاظ شیر میسور ابوالفتح فتح علی ٹیپو سلطان نے اپنی شہادت سے  
تھوڑے عرصہ پہلے کہے تھے۔ کتنے زور دار اور سچے الفاظ ہیں یہ ؟

ٹیپو سلطان کی ولادت بنگلور کے قریب ایک قصبہ میں آج سے

لڑائی دو سو برس پہلے ہوئی۔ والد کا نام حیدر علی تھا۔ حیدر علی ریاست

میسور کی فوج میں ایک رسالدار تھا۔ دکن کی اس چھوٹی سی ریاست کا

راجہ ایک ہندو تھا۔ یہ راجہ بہت کمزور تھا۔ اور اصلی حکومت اس کے

وزیر کے ہاتھ میں تھی۔ وزیر کو وہاں کی زبان میں ”دلوانی“ کہتے تھے۔

حیدر علی بڑا ہوشیار اور ذہین شخص تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ بڑی

قوت اور طاقت حاصل کر لی۔ "دلوانی" کچھ گھبرا گیا، اور اس نے ارادہ کر لیا  
 کہ اس رسالدار کو ختم کر دیا جائے۔ حیدر علی بھی سمجھ گیا، کہ کیا معاملہ ہے  
 دونوں میں اُن بن ہو گئی۔ اور آخر میں لڑائی تک نوبت پہنچی۔ حیدر علی  
 کو اس میں فتح ہوئی، اور اُس نے راجہ اور اس کے وزیر دونوں کو نظر بند  
 کر دیا۔ اور خود ریاست کا حاکم بن گیا۔ اُس نے رفتہ رفتہ اپنی سلطنت  
 کو بہت مضبوط کر لیا جس سے اُس پاس حکومتیں اور ریاستیں بڑے لگیں  
 اس وقت جنوبی ہند کی عجیب حالت تھی۔ سلطان اور نگرین عالمگیر  
 کے انتقال کے بعد یہاں مغلیں کا رعب اور دہرہ ختم ہو چکا تھا۔ مرہٹوں نے  
 پھر سر اٹھایا تھا، اور اپنی حکومت کو بڑھانے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہے  
 تھے۔ ادھر نظام حیدر آباد بھی اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کی فکر میں تھا۔  
 کے علاوہ ایک نئی قوم بھی اس صورتِ حالات کے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی  
 یہ نئی قوم انگریز تھی جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے جنوبی ہند کے بعض علاقوں  
 پر قبضہ کر کے اپنی طاقت کو بہت بڑھالیا تھا، اور وہ اس فکر میں تھے  
 کہ سارے ملک پر قبضہ کر لیں۔ حیدر علی کی دور اندیش نگاہوں نے اس  
 وقت اس خطرے کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ بڑا سمجھدار تھا، اور چاہتا تھا  
 انگریزوں کی ہر چال کو ناکام بنا دے اور انہیں یہاں سے باہر نکال  
 پھر اسلامی سلطنت قائم کرے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسے انگریزوں

لئی بار لڑنا پڑا۔ اور ہمیشہ اس کا پلہ بھاری رہا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی حکومت ریاست میسور کے علاوہ کئی علاقوں پر قائم ہو چکی تھی۔

حیدر علی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ٹیپو سلطان تخت پر بیٹھا۔ اسے بچپن ہی سے بڑی اچھی تعلیم و تربیت دی گئی تھی۔ سپہ گمی اور شہسواری سکھانے کے لئے بڑے بڑے مشہور تاتار کھسے گئے تھے۔ ٹیپو سلطان نے پندرہ سولہ برس کی عمر میں اپنے آپ کو ایک لائق شہزادہ اور بہادر سپاہی ثابت کیا تھا۔ وہ باپ کے ساتھ لڑائیوں میں شامل ہونے لگا تھا اور اس طرح جنگ کے طریقوں سے عملی واقفیت حاصل کر لی تھی۔ جس وقت ٹیپو سلطان تخت پر بیٹھا، اس وقت انگریزوں سے جنگ کا خاتمہ نہ ہوا تھا۔ اور مختلف محاذوں پر لڑائیاں برابر جاری تھیں۔ سب سے پہلے سلطان نے اس طرف توجہ کی۔ آخر ایک معمولی سی جنگ کے بعد انگریزوں سے صلح ہو گئی۔

مرہٹوں اور حیدرآباد کے نظام الملک نظام علی خاں کو امید تھی، کہ حیدر علی کے مرنے کے بعد میسور کا جسے سلطنتِ خداداد کہا جاتا تھا، خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر ان کی امیدوں کے خلاف سلطنتِ خداداد کو بڑی شان و شوکت حاصل ہوئی، اور اس کا پرچم دریائے کرشنا سے لے کر

ٹراؤ لکھو تک لہرانے لگا۔ چنانچہ مرہٹوں اور نظام نے اپکا کر کے ٹیپو سلطان  
 پر حملہ کر دیا۔ ٹیپو سلطان نے بہت چاہا کہ نظام اس جنگ میں شامل  
 ہو۔ وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہئے لیکن اس  
 کی یہ کوشش ناکام ہوئی۔ چنانچہ مجبور ہو کر اسے بھی مقابلہ پر آنا پڑا اور  
 ہوئی اور مرہٹے اور نظام بڑی طرح شکست کھا کر میدان جنگ سے  
 بھاگ گئے۔

سلطان کی طاقت سے خوف کھا کر انگریزوں نے پھر اس سے جنگ  
 چھیڑ دی۔ اس وقت لارڈ کارنوالس یہاں گورنر جنرل تھا۔ اس نے  
 مرہٹوں اور نظام کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا۔ اور بغیر کسی وجہ اور جنگ کا  
 اعلان کئے میسور کی سلطنت میں داخل ہو کر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ اور  
 سرنگاپٹم کی جانب بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے انگریزوں نے بڑی چالاک  
 سے سازشوں کا ایک جال پھیلادیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے بہت سے  
 امیروں اور وزیروں کو اپنے ساتھ بلا لیا تھا، اور یہ بد بخت سونے  
 اور چاندی کی خاطر اپنے آقا سے غداری کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ  
 سلطان کو انگریزوں کی نقل و حرکت کا پتہ نہ چلتا تھا، اور اس کے  
 برخلاف انگریزوں کو سلطان کی ہر حرکت کی اطلاع ملتی رہتی تھی۔ بہر حال  
 سلطان نے سرنگاپٹم میں بڑی بہادری اور مستقل مزاجی سے انگریزوں



دراخت کی۔ محاصرہ سنے یہاں تک طول کھینچا کہ انگریزوں کے پاس گھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو گیا۔ اور بارشیں بھی شروع ہو گئیں۔ اس لئے کارنوالس کو محاصرہ اٹھانا پڑا۔ مگر برسات کے بعد کارنوالس نے پھر ایک بڑی فوج کے ساتھ سزنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اب کے اس کی فوج کی تعداد نوے ہزار کے قریب تھی۔ مرہٹے اور نظام بھی ان کے ساتھ تھے۔ لیکن سلطانی سپاہ چالیس ہزار سے زائد نہ تھی۔ انگریزوں نے قلعہ فتح کرنے کی بڑی سحت کوشش کی۔ لیکن سلطان کی بہادری اور جرات کے سامنے ایک نہ چلی۔ مگر انگریزوں نے محاصرہ ضرور جاری رکھا۔ آخر مجبور ہو کر سلطان نے انگریزوں سے صلح کر لی۔ یہ سزنگا پٹم کا معاہدہ کہلاتا ہے۔ اس معاہدہ کی رو سے سلطان ٹیپو کو اپنے آدھے ملک سے دستبردار ہونا پڑا۔ اور تیس لاکھ پونڈ بطور تاوان جنگ ادا کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ اپنے دو بیٹے یہ عمال کے طور پر لارڈ کارنوالس کے حوالے کئے۔ ان جو صلہ شکن حالات کا مقابلہ کرنا اور کھوئے ہوئے اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنا ایک مستقل عراج اور جو صلہ مند انسان ہی کا کام تھا۔ سلطان ٹیپو نے مردانہ وار حالات کا مقابلہ کیا، اور ٹھوڑے ہی عرصہ میں اپنے اقتدار کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس نے تھوڑی سی مدت میں اس رقم کے ادا کرنے کا بھی بندوبست کر لیا جو تاوان جنگ کے سلسلہ میں اس کے ذمہ تھی۔ اس نے

ملک کے قدرتی ذرائع کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے ان سے پورا پورا  
 فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنی فوجوں کی نئے سرے سے تنظیم کی۔ فوجی انتظام  
 کے لئے علیحدہ محکمہ قائم ہوا۔ اور فوج کو نئے ہتھیاروں سے لیس کیا  
 گیا۔ بحری فوج کی طرف خاص طور سے توجہ کی۔ چھ سات سال کی مدت  
 میں اس کی سلطنت پھر اتنی مضبوط ہو گئی کہ مرہٹے، نظام اور انگریز  
 تینوں خوف کھانے لگے۔

اس دوران میں لارڈ کارنوالس کی جگہ لارڈ ولزلی گورنر جنرل بن کر  
 آگیا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ سلطنت میسور کو ختم کر کے دم لگے  
 اسے یقین تھا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا، تو سلطان انگریزوں کو ہندوستان سے  
 باہر نکال دے گا۔ اصل میں وہ ہندوستان میں قدم رکھنے سے پہلے ہی  
 سلطان کے عزم و ثبات، اس کی خدا داد صلاحیتوں اور تعمیری سرگرمیوں  
 کی بددستان سن چکا تھا، اور اس کے دماغ پر سلطان ٹیپو کا خوف پورے  
 طرح مسلط ہو چکا تھا۔ وہ اس زبردست حریف کو مٹانے کے لئے طرح  
 طرح کے منصوبے کاٹھ رہا تھا۔

اُدھر سلطان جانتا تھا کہ انگریزوں کا ہندوستان پر قابض ہونا  
 اسلام اور مسلمانوں کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس نے مرہٹوں اور  
 نظام کو اس خطرے سے آگاہ کیا اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش

کی۔ مگر مرہٹوں اور نظام کی حماقت اور ناقصیت اندیشی اور دشمن کی چالوں کے سامنے اُس کی پیش نہ گئی۔ ان سے نا اُمید ہو کر سلطان نے سلطان ترکیہ اور نپولین اعظم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سلطان ترکیہ نے تو خاموشی اختیار کر لی۔ مگر نپولین نے امداد کا وعدہ کیا۔ لیکن تقدیر کھڑی ہنس رہی تھی۔ چنانچہ سلطان کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ غداروں نے وہ کام کیا، جو دشمن شمشیر و سناں سے نہ کر سکتا تھا۔ سلطان کا اپنا ماموں محمد صادق انگریزوں کے ہاتھ بک چکا تھا۔

لارڈ ولزلی نے جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے، پہلے سے بھی کہیں بڑا سازش کا جال پھیلایا۔ جنوبی ہند میں مشہور ہے کہ ایک انگریز سپرن کرپٹ کی حدود میں مقیم ہو گیا۔ یہ مصنوعی پیر سلطان کے خلاف لوگوں کو اکساتا اور انہیں مالی امداد دے کر حکومت سے برکتہ کرتا۔ اس نے اپنا جال اتنا لمبا کیا کہ سلطان کے بڑے بڑے فوجی افسر اور امرائے دربار بھی اس کے وائے فریب میں پھنس گئے۔ اب سلطان کے اندرونی رازوں اور اس کی مہموں کے منصوبوں کا لارڈ ولزلی کو علم ہونے لگا۔ سلطان کے فوجی افسر بظاہر تو اُس کی تمنایت کا دم بھرتے تھے مگر اندرونی طور پر دشمن سے ساز باز رکھتے تھے۔

آخر جب ہر قسم کی تیاریاں پوری ہو گئیں تو انگریزوں سے زرنگاہم

کے قلعہ پر حملہ کر دیا۔ اور غدار امیروں نے ان کی قلعہ کے اندر اور باہر راہنمائی کی۔ جب سلطان نے دیکھا کہ انگریز قلعہ پر بڑھے آرہے ہیں تو وہ خود مقابلہ کے لئے نکلا۔ دہلی دروازہ کے قریب اس کا انگریزی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ سلطان اور اس کے محافظ دستے نے دشمن کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روک دیا۔ یہاں نہ صرف بندو قوں سے لڑائی ہوئی۔ بلکہ تلواریں بھی استعمال ہوئیں۔ تقریباً تین گھنٹے تک سلطان نے انگریزی فوج کو آگے بڑھنے سے روک رکھا۔ لیکن اب انگریزی فوج کے اور دستے دوسرے دروازوں کے ذریعہ شہر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ مجبوراً سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور جب وہ شہر کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا تو تین طرفوں سے گھر گیا۔ اس وقت ایک امیر نے کہا کہ حضور اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیں۔ سلطان نے پلٹ کر غصے سے جواب دیا۔ "گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔"

دروازے کے قریب ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں لڑائی ہونے لگی۔ بڑے گھسان کارن پڑا۔ اچانک ایک گولی سلطان کے گھوڑے کو لگی۔ گھوڑا وہیں گر گیا۔ اور سلطان پیادہ ہو کر لڑنے لگا۔ اس کے جانشین اپنے شیر ذیل آقا پر نشانہ ہونے لگے۔ انگریزوں کو جب معلوم ہوا کہ سلطان

خود یہاں لڑ رہا ہے، تو تمام انگریزی فوج اس جگہ جمع ہو گئی۔ سلطان اس دست بدست لڑائی میں جس بہادری اور دلیری سے لڑا، اس کو دیکھ کر دشمن بھی حیران رہ گئے۔ آخر ایک گولی سلطان کے دل کے قریب لگی، اور وہ زخمی ہو کر گر گیا۔ گویا دوپہر کے ڈیڑھ بجے سے شام کے سات بجے تک دست بدست جنگ کے بعد سلطان اور اس کے جانثار شہید ہوئے۔ زخمیوں اور مارے جانے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ یہ معلوم بھی نہ ہو سکا سلطان کس جگہ ہے۔ بارہ ہزار بہادر اس شمع کے گرد پروانوں کی طرح فدا ہو چکے تھے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ اس شہید ملت سلطان کی روح کب اپنے جسم سے جدا ہو کر خدا کے حضور میں پہنچی۔ مگر خیال ہے کہ مغرب کا وقت تھا۔ شہادت کے وقت سلطان کی عمر ۴۴ سال کی تھی جس وقت سلطان کی لاش ملی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جسم اس قدر گرم تھا کہ دھوکا ہوتا تھا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ سلطان کو گولی کے چار زخم آئے تھے، تین جسم پر اور ایک سیدھا کان میں۔ سلطان کا جنازہ نہایت احترام اور احتشام کے ساتھ ظہر کے وقت قلعہ سے روانہ ہوا۔ تمام شہزادے، امیر، وزیر ساتھ تھے۔ انگریزی فوج کے چاروستے بھی پیچھے پیچھے تھے۔ راستے میں دونوں طرف ہر مذہب ملت کی عورتیں اور مرد کھڑے زار و قطار رو رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا جیسے قیامت

آگئی ہو۔ شہر کے قاضی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اس نامور سلطان کو اس کے باپ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

سلطان شہید کی موت و حقیقت اسلامی شان و شوکت کی موت تھی یہی وجہ ہے جب انگریزوں کو اس کی شہادت کی اطلاع ملی، تو روپکارا "آج ہندوستان ہمارا ہے"

سلطان ٹیپو ایک بہادر سپاہی اور سپاہیوں کا رہبر تھا بلکہ ملکی انتظام میں بھی اس کو بڑی مہارت تھی اس نے اپنی سلطنت میں بڑی بڑی اصلاحیں کیں اور ہر محکمہ کی نئے سرے سے تنظیم کی۔ یہی وجہ ہے کہ کھوڑے عرصہ میں رعایا فارغ البال اور ملک خوشحال ہو گیا۔ زراعت، تجارت، صنعت و حرفت کو ترقی ہوئی۔ سلطان نے بڑی اور سگری فوج کو بھی بہت طاقتور بنا دیا تھا اس نے فوجی محکمہ کے لئے اپنی نگرانی میں ایک کتاب لکھوائی تھی جس کا نام تحفۃ المجاہدین ہے۔ اس میں تمام فوجی قاعدے اور قانون درج ہیں سلطان میں بہت سی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں۔ وہ نہایت نرمی اور ملامت سے بات چیت کرتا تھا۔ اس کی زبان سے کبھی کوئی فحش کلمہ نہیں نکلا۔ اسے اس امر کا احساس تھا کہ جب تک مسلمان سادہ زندگی اختیار نہ کریں گے، وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لئے اس نے تمام تکلفات کو ختم کر دیا تھا۔ اُٹھنے بیٹھنے، آداب و سلام اور تحریر و تقریر میں جو سادگی اور

نے اختیار کی، وہ آپ اپنا نمونہ ہے۔ سلطان نماز کا بڑا سخت پابند تھا، اور  
 نماز صبح کے بعد تلاوت قرآن مجید ضرور کرتا تھا۔ وہ رحم دل بھی بہت تھا۔  
 اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہ رات کا وقت تھا  
 سلطان اپنے خیمے میں سو رہا تھا۔ اس کو کراہنے کی آواز آئی۔ خیمے سے  
 نکل کر دیکھا، تو پتہ چلا، قیدی پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ سلطان نے  
 انہیں خود پانی لاکر پلا یا اور اس وقت تک نہ سو یا جب تک یہ قیدی نہیں سو  
 اس کی جنگی قابلیت کو دشمن بھی ملتے ہیں۔ فوجی معاملات میں  
 اس کی رائے ہمیشہ ٹھیک ثابت ہوتی تھی۔ اسے آخر میں شکست ہوئی، تو  
 اس کی وجہ محض اس کے وزیروں اور امیروں کی فدااری تھی اور کچھ نہیں۔  
 سلطان کی بہادری اور دلیری کی اس سے زیادہ روشن مثال اور کوئی نہیں  
 مل سکتی، کہ وہ دست بدست جنگوں میں خود شریک ہوتا، اور لڑائیوں میں  
 سب سے آگے رہتا تھا۔ شیر کا شکار اس کی بہترین تفریح تھی، اور جوانی  
 میں اس نے بن تہا کئی شیروں کو اپنی تلوار سے مارا تھا۔ آج بھی جنوبی  
 ہند کے لوگ اس بہادر سلطان کو شیر میسور کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سلطان  
 نے کئی شیر اپنے محل میں پال رکھے تھے۔ شیر کی صفات، شیر کی لڑائی، شیر  
 کا رنگ اس کو اس قدر پسند تھا کہ اس کا مثل اس کی بنائی ہوئی مسجد اور  
 گنبد تمام اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔

سلطان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا کر ایک اسلامی حکومت قائم کرے۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے اس نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ اور آخر میں اسی کے لئے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اگر اس سے نمک حرامی اور غداری نہ کی جاتی تو ملک ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔

پولین کی بہادری اور جوانمردی سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ اس کی شخصیت کے لئے ہر ایک کے دل میں احترام کے جذبات موجود ہیں لیکن اس کا مقابلہ ٹیپو سے کیا جائے تو ٹیپو کی شخصیت زیادہ بلند مرتبہ معلوم ہوتی ہے۔ پولین کی قوم نے پوری طرح اس کا ساتھ دیا۔ اس کے افسر اس کے ایک ادنیٰ اشارے پر اپنی جانیں فدا کرنے کو تیار رہتے تھے۔ مگر ٹیپو کے افسر اور وزیر اس سے ایک مدت تک غداری کرتے رہے۔ اگر سلطان غداروں کا شکار نہ ہو گیا ہوتا تو اس کی فتوحات کا دائرہ پولین سے بھی زیادہ وسیع ہوتا۔ پولین کو جب شکست ہوئی تو اس نے اپنا وطن دشمنوں کے حوالے کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سینٹ پلینا میں قید کر دیا گیا۔ اور قید ہی کی حالت میں وہ مر گیا۔ ٹیپو کو جب محض غداروں کی سازشی افسروں کی وجہ سے شکست ہوئی تو اس نے میدان جنگ میں وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے لو کر شہید ہونا پسند کیا۔ یہی ایک بات سلطان ٹیپو کو پولین پر فوقیت دیتی ہے۔



اور پست

(غازی اور مجاہد)



# انور پاشا

” انور کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے  
 کہ شہید ہو جائے، اور حضرت خالد  
 بن ولید کے ساتھ اس کا حشر ہو۔  
 دُنیا چند روزہ ہے۔ موت یقینی ہے  
 پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ جب موت  
 آنے ہی والی ہے، تو پھر آدمی بستر  
 پر پڑے پڑے کیوں مرے؟ شہادت  
 کی موت، موت نہیں، زندگی ہے۔  
 لازوال زندگی۔ میری وصیت یہ  
 ہے کہ تمہاری جتنی بھی اولاد ہو،

سب کو میری زندگی کے حالات سنانا  
 اور سب کو میدانِ جہاد میں اسلام  
 اور وطن کی خدمت کے لئے بھیج دینا۔

یہ چند سطریں اُس لمبے خط کا ایک حصہ ہیں۔ جو ترکی  
 مشہور مجاہد اور غازی الٰہ پاشا نے اپنی بیوی کے نام لکھا  
 اس وقت وہ اپنے ملک سے دور ترکستان میں اللہ کی راہ میں  
 جہاد کر رہے تھے۔

الٰہ پاشا ۱۸۸۲ء میں بمقام قسطنطنیہ پیدا ہوئے۔ والد  
 نام غازی احمد پاشا تھا۔ الٰہ پاشا کو بچپن ہی سے ایسے کھیلوں  
 سے دل چسپی تھی، جن سے دلیری اور جرات دکھانے کا موقع ملتا  
 ان کی شروع ہی سے یہ آرزو تھی کہ وہ سپاہی بنیں۔ چنانچہ جب  
 وہ بڑے ہوئے، تو ترکی کے مشہور کالج میں داخل ہو گئے۔ اور  
 تھوڑی مدت میں اپنی ذہانت سے غیر معمولی ترقی حاصل کر لی  
 یہیں انہوں نے عربی، فارسی، فرانسیسی، انگریزی، جرمنی اور روسی  
 زبانیں سیکھ لیں۔

جنگی کالج سے نکلنے کے بعد وہ فوج میں داخل ہو گئے۔  
 ترقی کر کے نائب کے درجہ تک پہنچ گئے۔ بہت دنوں تک کئی

یہ تجربہ کار ترک افسروں کے ایڈمی کانگ رہے۔ اور اس طرح ان کی ہجرت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ۱۹۱۳ء میں انہیں پاشا کا معزز خطاب ملا۔ اور وہ ترکی وزیر جنگ مقرر ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر تیس سال سے زیادہ نہ تھی۔

اس زمانہ میں ترکی پر سلطان عبدالحمید خاں کی حکومت تھی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم سلطان تھا۔ رعایا کا بڑا حصہ اس کی حکومت سے بیزار تھا۔ ترک کسانوں کو بڑے بڑے ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے۔ یہ غریب سال بھر کی محنت اور کفایت شکاری سے جو سرمایہ جمع کرتے، اس کا بڑا حصہ ٹیکس جمع کرنے والے لے جاتے۔ یوں تو پولیس کا محکمہ بھی تھا، اور عدل و انصاف کا بھی لیکن لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کا کوئی معقول انتظام نہ تھا، اور کسی سے انصاف بھی نہ ہوتا تھا۔ فوج کی حالت بھی ابتر تھی۔ فوجوں کو پورا راشن کبھی نہ ملتا تھا، اور انہیں کافی لباس بھی میسر نہ تھا۔ غرض ملک کے ہر حصے میں بیزاری پھیلی ہوئی تھی، اور سلطان کے خلاف سخت جذبات پیدا ہو رہے تھے۔

ملک کی یہ حالت دیکھ کر چند دلیر ترکوں نے ایک انجمن قائم کی، جس کا نام انجمن اتحاد و ترقی رکھا گیا۔ اس انجمن کا مقصد یہ

تھا کہ سلطان عبدالحمید خاں ملک میں دستوری حکومت کو راج کرے تاکہ  
دوسرے ملکوں کی طرح ترکی بھی شخصی ظلم سے نجات حاصل کر سکے۔  
لوگوں کو بھی حکومت میں حق ملے اور ان کی آواز بھی سنی جائے  
اس انجمن نے بہت جلد مقبولیت حاصل کر لی۔ اور ہزاروں لوگ  
اس میں شامل ہو گئے۔

اس انجمن کا رکن ہونا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جب کوئی شخص  
اس کا رکن ہونا چاہتا تو اسے یہ قسم کھانی پڑتی کہ میں خدا اور  
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میرے  
جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا، میں قومیت، آزادی  
اور صداقت کے لئے جنگ کرتا رہوں گا۔

۱۹۰۵ء میں اوروپا میں صوبہ مقدونیہ کے انسپکٹر جنرل حلیمی پاشا  
کے ایڈی کانگ تھے۔ آپ نے بھی ملک و قوم کی خاطر اپنی وردی  
پھینکی اور اس انجمن میں شامل ہو گئے۔ آپ کی شمولیت سے انجمن  
میں ایک نئی روح اور تقویت پیدا ہو گئی۔ تین سال کے بعد  
ہی سلطان عبدالحمید کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا گیا، اور  
تیزی کے ساتھ انقلاب کے شعاع پھیلنے لگے۔ سلطان نے بہت  
کوشش کی کہ کسی طرح اس تحریک کو دیا دیا جائے مگر اسے ناکام

نی۔ انور پاشا نے اس وقت بڑی بہرہ و عزیز می حاصل کر لی تھی اور لوگ  
 ن پر اپنی جانیں نثار کرنے کو تیار تھے۔ اُن کا ملک بھر میں بے حد  
 زور و سونخ تھا۔ سلطان نے کوشش کی کہ انور کو لالچ اور خوشامد سے  
 راضی کیا جائے۔ چنانچہ انہیں قصرِ بلیڈیز (جہاں سلطان رہتا تھا) آنے  
 کی دعوت دی گئی۔ ان سے وعدہ کیا گیا کہ انہیں جنرل بنا دیا جائے گا۔  
 انور پاشا سلطان عبدالحمید کی چالوں سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتے  
 تھے کہ قسطنطنیہ جانے کے معنی یہ ہیں کہ اپنی زندگی سے ہاتھ دینٹوئیں  
 بہت سے محبانِ وطن ترقی اور انعام کے وعدوں پر اس سے پہلے بھی  
 قصرِ بلیڈیز میں بلائے گئے تھے۔ مگر پھر دُنیا کو معاوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں

اور کیونکر فائب ہو گئے؟

انجمن اتحاد و ترقی اب کھل کر میدان میں آگئی تھی۔ فوج کے ایک  
 بڑے حصے نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ آخر سلطان کو  
 بھی جھبکنا پڑا۔ اور اُس نے دستوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ اس  
 اعلان سے ملک بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ انور پاشا کی بہت  
 بڑی کامیابی تھی۔

۱۹۱۰ء میں اٹلی نے بغیر کسی وجہ کے طرابلس پر حملہ کر دیا۔

طرابلس ترکوں کے ماتحت تھا۔ اٹلی نے طرابلس کے کئی شہروں پر

گوکہ باری شروع کر دی۔ اور ترکوں کی بحری فوج کو کئی مقامات پر شکست  
 دی۔ اس شکست کا سبب یہ تھا کہ سلطان عبدالحمید نے اپنے عہد  
 حکومت میں بحری فوج کی طرف کوئی توجہ نہ کی تھی۔ اگر اس نے کچھ  
 بھی توجہ کی ہوتی، تو اٹلی کا طرابلس پر قبضہ کرنا ناممکن تھا۔  
 طرابلس میں ترکی فوج کی تعداد بیس ہزار سے زیادہ نہیں تھی  
 اور چونکہ سمندر پر اٹلی کے جہازوں کا قبضہ تھا۔ اس لئے جنگ شروع  
 ہو جانے کے بعد بحری راستے سے فوجی مدد بھی نہیں پہنچائی جاسکتی  
 تھی۔ خشکی کا راستہ مصر میں سے تھا۔ چونکہ مصر پر انگریزوں کا قبضہ  
 تھا اور اس نے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا تھا۔ اس لئے اس راہ  
 سے بھی ترکی فوجیں طرابلس نہ جاسکتی تھیں۔ اس معاملہ پر غور کرنے  
 کے لئے انجمن اتحاد و ترقی کا ایک جلسہ ہوا۔ اور اس میں یہ طے پایا  
 کہ بہت سے ترکی افسر طرابلس بھیجے جائیں، جو وہاں کے عربوں  
 کو جنگی قواعد سکھائیں۔ مگر مشکل یہ تھی، کہ ترک اپنی وردیوں اور لباس  
 میں رہ کر وہاں نہیں جاسکتے تھے۔ لہذا قرار پایا کہ وہ بھیس بدل کر  
 جس طرح بھی ہو سکے طرابلس پہنچ جائیں۔  
 اور پاشا وہاں جانے کے لئے بے تاب تھے۔ مگر وہاں پہنچنا کچھ  
 ناممکن سا تھا۔ لیکن ناممکن کا لفظ ان کی لغت میں نہ تھا۔ وہ بھیس



بدل کر اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر انگریز افسروں کی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے مصر کے راستے سے طرابلس پہنچ گئے۔ انہوں نے طرابلس میں قدم رکھتے ہی سب قبیلوں میں دعوتِ جہاد شروع کر دی چند ہی دنوں کے بعد ہر طرف کے مجاہد نیزے بلند کئے ہوئے ان کے پاس آنے لگے۔ انور پاشا تین تہا دشمن کے لشکر کے سامنے دلیرانہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور پھر نو مہینوں کے اندر ایک بار بھی انہوں نے شکست نہ کھانی۔ تمام عرب انور کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ ان میں آپس میں ایک مدت سے اختلافات اور دشمنیاں چلی آتی تھیں۔ مگر انور پاشا نے انہیں موثر اور دل نشین طریقے سے سمجھایا، کہ یہ کتنی بُری بات ہے۔ پھر ان میں باہم رشتہ داریاں قائم کروادیں اور اس طرح صدیوں کی دشمنیاں بھائی چارے میں تبدیل ہو گئیں۔ اس کے بعد انور پاشا نے انہیں فوجی قواعد اور نظام کے ماتحت لانا شروع کیا۔ تمام قبیلوں کو چن۔ پلٹنوں میں تبدیل کر دیا۔ اور ہر پلٹن کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک افسر مقرر کر کے دن رات قواعد کرانا شروع کر دی۔ خود عربوں نے جب معلوم کر لیا کہ بغیر اس قواعد کے سیکھے وہ دشمن کے حملہ کا جواب نہ دے سکیں گے اور ان سے بارہ نہ لے سکیں گے، تو ان میں ایک ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ مہینوں کی قوا

چوبیس گھنٹے کے اندر حاصل کرنے لگے۔ اس دوران میں اٹلی کی فوجوں نے  
 جرات کر کے ایک دو قدم آگے بڑھائے اور عربوں پر بم برسائے لگے۔  
 یہ دیکھ کر ایک دن عربوں کے قبیہ نے ہتھیار ڈال دیے، اور اٹلی کے سینکڑوں  
 سپاہیوں کو تلوار کے گھاٹ اُتار دیا۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد  
 چند عربوں نے اٹلی کے ایک کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اور دیکھتے دیکھتے  
 پوری پلٹن کو تباہ کر دیا۔ ان کو اس حملہ میں بہت مال غنیمت  
 حاصل ہوا۔ اس میں اور چیزوں کے علاوہ آٹھ سو بندوقین بھی تھیں۔  
 انور پاشا بہت خوش ہوئے۔ اب اٹلی کی فوجوں پر حملہ کرنا بچوں کا کھیل  
 بن کر رہ گیا۔ چند سو عرب اٹھتے اور کھیلتے کودتے اٹلی کی پوری پلٹن کو  
 تباہ کر دیتے۔ اٹلی کا بے حد نقصان ہوا اور وہ بڑے بدحواس ہو گئے۔  
 انہوں نے بہادری اور دلیری کا جواب وحشت اور درندگی سے دینا شروع  
 کر دیا۔ انہیں امید تھی کہ اب ترک آسانی کے ساتھ صلح کے لئے رضی  
 ہو جائیں گے لیکن ترکوں نے صلح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ  
 اُس وقت تک جنگ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کر چکے تھے جب تک دشمن  
 کو شکست دے کر بھگانے دیں۔ مگر بدقسمتی سے بلقان کی بہت سی حکومتوں  
 نے ترکی پر حملہ کر دیا۔ اور انہیں مجبوراً اٹلی سے صلح کرنی پڑی۔ طرابلس  
 میں انور پاشا نے جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دیئے، اُس وقت کی ساری

نیا حیران تھی +

جب وزیر پاشا طرابلس سے قسطنطنیہ پہنچے، تو جنگ بلقان شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت جنگ کی یہ حالت تھی کہ ترکی کے پرانے دشمنوں بلغاریہ اور یونان نے اورنہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ان کی فوجیں شتالوجہ کے سامنے پڑی تھیں جو قسطنطنیہ سے صرف پچیس میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ دوسری طرف سرویوں اور یونانیوں نے بعض اہم مقامات پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اس وقت جنگ عارضی طور پر ملتوی تھی۔ اور ترکی اور دوسری قوموں کے نمائندے لندن میں صلح کی بات چیت کر رہے تھے۔ ترکی کی حکومت جس کا وزیر اعظم اس وقت کا مل پاشا تھا، اس بات پر تیار تھی، کہ اورنہ سے دست بردار ہو جائے۔ اورنہ سے دست برداری کا مطالبہ قسطنطنیہ سے دست برداری تھی۔ مگر عین وقت پر ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا جس نے ترکی کی عزت رکھ لی، اور اس وزارت کا بھی خاتمہ کر دیا، جو اورنہ سے دست بردار ہونے کے لئے تیار تھی۔ اس کے بعد جو وزارت قائم ہوئی اس نے اورنہ سے دست برداری کا مطالبہ انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی خلیفہ کا فرانس کو برضا سے ہونے سے یہ غیبی ہاتھ اس مجاہد اور غازی وزیر پاشا کو تھا جس نے ترکی کو سلطان عبدالحمید کے ظلم سے نجات دلا کر دستوری حکومت قائم کرائی تھی۔

جیسا کہ اوپر بتائے ہیں، النور پاشا طرابلس سے قسطنطنیہ پہنچ چکے تھے، اور ایک دن چند جاں فروشوں کو لے کر اپنا تک وزیر اعظم کے دفتر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر کئی افسروں اور لوگوں کے دستخط تھے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ وزارت تبدیل کر دیا صلح سے انکار کر دو۔ فوج کا جو حصہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھا اسے پہلے ہی سے کسی بہانے سے قسطنطنیہ سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ جس قدر فوج شہر میں تھی، وہ عجب النور پاشا کے ساتھ تھی۔ وزیر ان حالات سے بے خبر اپنے کام میں مشغول تھے کہ النور پاشا اندر داخل ہوئے ناظم پاشا وزیر جنگ کے ایڈی کانگ نے اس جماعت کو روکنے کی کوشش کی۔ اور پستول چلائی۔ یکایک دوسری طرف سے بھی گولی چلی اور ناظم پاشا گر کر وہیں ٹھنڈے ہو گئے۔ گولیوں کی آوازوں سے محافظ دستے میں بھی جنبش پیدا ہوئی۔ ایک سپاہی نے النور پاشا کی طرف بندوبست کی نالی بھی کر دی۔ لیکن اس بہادر نے ذرا بھی پروا نہ کی۔ اور فوراً قدم بڑھا کر اس کمرے کے اندر پہنچ گئے جہاں وزیر اعظم کا دل پاشا اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لئے موجود تھا۔ النور پاشا نے بڑے سہجے لہجہ میں کہا: "میں حکم دیتا ہوں کہ جنگ جاری رکھنے کی قسم کھاؤ یا اس کرسی سے الگ ہو جاؤ۔ یاد رکھو تمہاری ذرا سی جیل و نجات سے یہ

کمرہ خون سے بھر جائے گا۔

کابل پاشا مارے خوف کے کانپ رہا تھا۔ وہ بولا: "میرا خیال جنگ جاری رکھنے کے خلاف ہے" اور یہ کہہ کر اپنا استیعفا لکھ کر دے دیا۔  
 انور پاشا نے استیعفا کو جیب میں ڈال کر کمرے کی چاروں طرف نظر ڈالی، اور دوسرے وزیروں سے کہا: "جب تک نئی وزارت قائم نہ ہو جائے، آپ لوگ اپنے آپ کو نظر بند سمجھیں"۔ انور پاشا نے جس تیزی دلیری اور بہادری کے ساتھ وزارت کو توڑا، وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔  
 اس ضروری کام سے فارغ ہو کر انور پاشا نے فوج کی اصلاح کی طرف توجہ کی اور چند ہی روز میں انہوں نے اس میں ایک نئی روح پھونک دی۔ لندن میں جو صلح کانفرنس ہو رہی تھی، وہ بے اثر ثابت ہوئی۔ اور فروری ۱۹۱۳ء کو پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اور اب کے نتیجہ ترکوں کے حق میں اچھا نکلا۔ پندرہ جولائی کو انور پاشا پھرتیس میں داخل ہوئے، اور پانچ دن کے بعد اورنہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اور کئی مقامات بھی دوبارہ فتح کئے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد صلح ہو گئی۔ اور ترکی کو ایک کافی علاقہ سے دست بردار ہونا پڑا۔  
 فوج کی حالت اگرچہ بہت کچھ درست ہو چکی تھی لیکن ابھی اس طرف توجہ کی بڑی ضرورت تھی۔ چنانچہ انور پاشا وزیر جنگ مقرر کر دیئے

گئے۔ انہوں نے فوج میں اصلاحات کے احکام نافذ کئے۔ مختلف نو  
 چھاؤنیوں کا معائنہ کیا اور اپنی تمام کوشش صرف اس بات پر صرف کر  
 لگے کہ ملک اور قوم کو اسی عروج پر پہنچائیں، جو اسے کسی زمانے  
 حاصل تھا۔

بلقان کی جنگ کو ختم ہونے ابھی ایک ہی سال ہوا تھا  
 یورپ میں ایک نئی اور ہیبت جنک چھڑ گئی۔ ترک کسی جنگ میں حصہ  
 لینے کے لئے تیار نہ تھے۔ مگر حالات کچھ ایسے پیش آ گئے کہ انہیں  
 جنگ میں مجبوراً شامل ہونا پڑا۔ اس بڑی جنگ میں ایک طرف انگریز  
 فرانسیسی اور روسی تھے، اور دوسری طرف جرمنی اور آسٹریا۔ ترکی  
 جرمنی کا ساتھ دیا۔ چار سال کی خوفناک جنگ کے بعد انگریزوں اور آسٹریا  
 کے ساتھیوں کو فتح ہوئی اور جرمنی اور اس کے ساتھیوں کو شکست  
 ترکی کو سوت نقصان ہوا۔ اور اس کے بہت سے علاقے پر  
 قابض ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھ کر اور پاشا اکتوبر ۱۹۱۹ء میں وزیر  
 جنگ کے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور ترکی سے نکل گئے۔

ترکی سے نکلنے کے بعد آپ مختلف شہروں کی سیاحت کر  
 ہوئے سمرقند پہنچے۔ وہاں کے شہریوں نے آپ کا شاندار استقبال  
 ترکستان میں اس وقت ایک نئی جمہوریت قائم ہوئی تھی۔ اس

صدر نے آپ کو ایک معزز عہدے پر مقرر کر کے فوج کی تنظیم آپ کے سپرد کر دی۔ یہاں آپ نے یہ کوشش کی کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے۔


روس میں اس وقت ایسے لوگوں کی حکومت تھی جنہیں بالشویک کہا جاتا ہے۔ اسے الور پاشا اور ان کی تحریک سے بہت خوف تھا۔ چنانچہ بالشویک حکومت نے ان کے خلاف ایک فوج بھیج دی۔ یہ فوج اچانک ان کے سر پر آپہنچی۔ اگرچہ ان کے ساتھ بہت تھوڑی فوج تھی۔ مگر آپ نے دشمن پر حملہ کر دیا۔ اور نہایت دلیری اور بہادری سے لڑے۔ لیکن خدائی حکم آپہنچا تھا لڑائی کا پانسہ آپ کے خلاف پڑا، اور آپ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ الور کی بہادری اور دلیری کو دوست دشمن سب مانتے ہیں۔ ان کے عظیم الشان کارنامے ترکی کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے ملک اور قوم کے لئے جو کام کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ ان کی جنگی قابلیت کو ایک دنیا مانتی ہے۔ وہ بڑے تجربہ کار سپہ سالار اور جرنیل تھے۔ بہادری اور دلیری کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی خوبیاں تھیں۔ وہ نہایت خلیق اور برو بار تھے۔ ان کی زبان میں بہت مٹھاس تھی۔ کوئی شخص ان کے

دل کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اُن کی قوتِ ارادی بہت  
 زبردست تھی۔ دل میں جو بھٹان لیتے تھے، اسے گزرتے تھے۔  
 انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ نہ صرف ترکی بلکہ ساری دُنیا کے مسلمانوں  
 کے محبوب تھے۔



مُضَطَّافَاتُ الْبُرُكِي

نجات ہندو کی



# مُصْطَفٰی کَمَالِ اَنَامِرک

”پیارے دوست! تم فکر نہ کرو۔ میں راضی  
 بہ رضائے حق ہوں۔ اگر خدا کو مجھ سے کام لینا  
 منظور ہے، اور مسلمانوں کی خدمت کرنا میری  
 قسمت میں ہے تو میں ہرگز نہ مروں گا۔ اور  
 اگر میرا وقت آگیا ہے تو میں خوشی سے دنیا  
 کو خیر باد کہنے کے لئے تیار ہوں۔ اگر میں  
 مر جاؤں تو دنیا نے اسلام کو میرا پیغام پہنچا  
 دینا کہ زندگی حرکت کا نام ہے۔ مسلمانوں  
 کو اگر زندہ رہنا ہے، تو رسولِ عربیؐ کے  
 نقش قدم پر چلیں۔ سادہ زندگی اختیار کریں

محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنائیں۔ فضیول  
 ٹیپ ٹاپ اور وقت ضائع کرنے سے پرہیز  
 کریں۔ فوجی نظام سے رہیں جس طرح  
 حضرت فاروق اعظمؓ نے فوجی نظام کی تاکید  
 کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے  
 حکم کے مطابق علم حاصل کریں۔ عقل سے  
 کام لیں۔ اور زندگی کا کوئی لمحہ بھی بے کار  
 نہ جانے دیں!

یہ وہ الفاظ ہیں جو ترکی کے نامور مجاہد مصطفیٰ کمال اتاترک  
 نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے اپنے دوست رفیق رُشدی سے کہے  
 تھے۔ کتنے اچھے الفاظ ہیں یہ۔ اور اگر مسلمان ان پر عمل کریں،  
 تو ترقی کی دوڑ میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں؟

عثمانی ترکوں نے ترکی پر ساڑھے چھ سو سال کے قریب حکومت  
 کی۔ تین سو سال تو انہوں نے وہ شان و شوکت دکھائی کہ ساری دنیا  
 ان کو ادب اور عزت سے دیکھتی تھی۔ اس کے بعد حکومت کی بنیادیں  
 کھو کھلی ہونے لگیں۔ اٹھارویں صدی میں تو اس کی حالت بہت ہی  
 خراب ہو گئی۔ اور یورپ کے لوگ ترکی کو مروجہ بیمار کہنے لگے۔ وہ اس کی

موت کے انتظار میں تھے مگر عجیب بات ہے کہ کسی کو اس پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اس وقت سلطان عبدالحمید ترکی پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی موت کے بعد ہر طرف بغاوتیں اور شورشیں شروع ہو گئیں۔ روس ہاتھ پاؤں پھیلانے لگا یہاں تک کہ ترکی سے جنگ چھڑ گئی۔ آخر ۱۹۱۸ء میں برلن میں ایک معاہدہ ہوا جس کی رو سے ترکی کے پاس یورپ کا صرف بھوڑا سا علاقہ رہ گیا۔ یہ ایسی ٹھوکری تھی جس سے ترک چونک اٹھے۔ ان میں نئے خیالات پیدا ہونے لگے۔ لوگ حکومت سے بیزار ہو گئے۔ اور انہوں نے سوچا، آخر انہیں بھی ملک کے انتظام میں حصہ لینے کا کیوں موقعہ نہ ملے۔ چنانچہ نوجوان ترکوں نے ایک انجمن قائم کی، جس کا نام انجمن اتحاد و ترقی رکھا گیا۔ اس کا مقصد لوگوں میں سچی محبت پیدا کرنا اور حکومت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، انہیں دور کرنا تھا۔

۱۹۱۴ء میں دنیا کی پہلی بڑی لڑائی شروع ہو گئی۔ اس میں جرمنی، آسٹریا اور ترکی ایک طرف تھے۔ روس، برطانیہ، فرانس دوسری طرف۔ یہ جنگ چار سال تک جاری رہی۔ آخر ۱۹۱۸ء میں جرمنی اور اس کے ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ اس طرح عرب، شام، فلسطین اور عراق جن پر ترکوں کی حکومت تھی، ان کے قبضے سے نکل گئے۔ مصر پہلے

ہی نام کو ان کے ماتحت تھا۔ اب وہ تعلق بھی ختم ہوا۔ ایشیائے کوچک اور یورپ سے بھی ان کا اقتدار اٹھ گیا۔ ایسی حالت میں جب کہ ترکی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا، ایک ترک مجاہد قسطنطنیہ سے بھاگ کر اناطولیہ پہنچا اور چند ساختیوں کو اکٹھا کر کے اپنے ملک اور قوم کی عزت بچانے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ یہ اس کی بہادری اور جرأت کا نتیجہ ہے کہ آج ترکی کا شمار یورپ کی بڑی سلطنتوں میں ہوتا ہے۔ یہ مجاہد مصطفیٰ کمال اتاترک تھا، جسے ترک اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور اس کی ذات پر فخر کرتے ہیں۔

مصطفیٰ کمال کے باپ کا نام علی رضا آفندی تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھا۔ مصطفیٰ کمال ۱۸۸۰ء میں سالونیکا میں پیدا ہوا۔ علی رضا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا مولوی بنے۔ مگر اس آرزو کے پورا ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال کی والدہ اپنے بیٹے کے ساتھ سالونیکا کے قریب ایک گاؤں میں جہاں اُن کا ایک عزیز رہتا تھا، چلی گئیں اور وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ یہاں کمال کے ذمے یہ کام کیا گیا کہ بھیر بکریوں کی رکھوالی کرے اور کھیتوں سے کوئے اڑائے۔ اس نے یہ کام بڑی محنت اور چستی سے سرانجام دیا۔ کیا مجال کہ کوئی بھیر بکری ادھر سے ادھر ہو جائے، یا کوئی کوئے کھیت کے پاس پھٹک جائے۔ ایک

روز اس کی والدہ کو خیال آیا کہ اس طرح بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کی خالہ کی کوشش سے مصطفیٰ اکمال کو ایک فوجی مدرسہ میں داخل کر دیا گیا۔ یہاں اس کی بہادری اور قابلیت کے جوہر کھلے۔ یہیں اس کے دل میں نئے نئے خیالات پیدا ہوئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ترکی کو یورپ کی قوموں کے ظلم سے چھڑانا چاہئے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ سلطان عبدالحمید کو تخت سے اتار دیا جائے۔ اس نے کالج میں انجمن وطن کے نام سے ایک انجمن قائم کی اور انجمن کی طرف سے ایک اخبار بھی نکالا جس میں اس نے بڑے زوردار مضمون لکھے، جب حکومت کو اس کی خبر ہوئی، تو بہرے سے نوجوانوں کو جن میں مصطفیٰ اکمال بھی تھا، گرفتار کر لیا گیا۔ چند ہفتوں کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اور سلطان کے حکم سے کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ بھیجا جاتا رہا۔ اور آخر سالونیکا میں تباہ ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد سلطان کو معزول کر دیا گیا، اور انجمن اتحاد و ترقی نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مصطفیٰ اکمال کو اگرچہ انجمن کی بعض باتوں سے اختلاف تھا مگر جب اسے جنگی وزارت میں ایک عمدہ پیش کیا گیا تو اس نے قبول کر لیا۔ مصطفیٰ اکمال یہ چاہتا تھا کہ اس عمدہ سے فائدہ اٹھا کر کوئی بڑا کام کرے۔ لیکن اتنے میں بنگاہ بنگاہ شروخ ہو گئی، اور ترکی پر سببتوں

اور پریشانیوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بلغاری فوجوں نے ترکی کے مشہور  
 شہر اڈریانوپل کا محاصرہ کر لیا اور قلعوں کو فتح پر فتح کرتی ہوئی دارالخلافہ  
 کے قریب پہنچ گئیں۔ یونانی فوجوں نے مقدونیا کے کئی علاقوں پر قبضہ  
 کر لیا۔ ترکی کے پاس یورپ کا صرف بھڑاسا حصہ باقی رہ گیا بگر اوزر پاشا  
 اور کمال پاشا کی جنگی تدبیروں نے اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔  
 یہ جنگ ختم ہوئی، تو ۱۹۱۴ء میں پہلی بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ اس  
 لڑائی میں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، جرمنی، آسٹریا اور ترکی ایک طرف تھے،  
 اور برطانیہ، روس اور فرانس دوسری طرف۔ انہیں اتحادی کہا جاتا تھا۔  
 پہلے پہل جرمنی نے اتحادیوں کو بڑی طرح شکستیں دیں۔ اتحادی سخت  
 پریشان ہوئے اور اپنی بحری برتری کو قائم رکھنے کے لئے درہ دانیال  
 پر حملہ کر دیا۔ ابتدا میں اتحادیوں کو فتح کا بل ہوئی۔ اور ترکوں کو سخت  
 نقصان اٹھانا پڑا۔ مگر جلد ہی ترکوں کے جوابی حملوں سے اتحادی فوجوں  
 کے چھکے چھوٹ گئے، اور انہیں کئی شکستیں ہوئیں۔ ان شکستوں کے  
 بعد اور اتنا نقصان اٹھا کر اتحادیوں کو معلوم ہو گیا کہ جب تک جزیرہ  
 منائے گیلی پولی کے مغربی اور جنوبی ساحلوں پر فوجیں نہ اتاری جائیں گی  
 درہ دانیال کا فتح کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت بڑی تعداد  
 میں اور بہترین فوجیں گیلی پولی کے ساحل پر اتاریں۔ اور تین چار حملوں



کے بعد ایک بڑی اچھی جگہ قبضہ کر کے چناق کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ چناق  
 درہ وانیال کی کتھی تھی، اور درہ وانیال پر قبضہ کرنا گویا قسطنطنیہ پر قابض  
 ہو جانا تھا۔ اس نازک موقع پر اس محاذ کی کمان مصطفیٰ کمال کے سپرد  
 ہوئی۔ اس نے ترکی فوجوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اور ترک  
 سپاہیوں نے بھی ایسی جاں بازی دکھائی کہ اس کی مثال خود ان کی تاریخ  
 میں بھی کم ملتی ہے۔ لڑائی کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ آخر مصطفیٰ کمال  
 نے اتحادیوں کو زبردست شکست دی۔ ایسی شکست انہیں اب تک  
 پیش نہ آئی تھی۔ اس کامیابی نے مصطفیٰ کمال کی فوجی قابلیت کا سکہ تمام  
 دنیا پر بٹھا دیا۔

اس جنگ کے دوران میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس سے  
 کمال اناٹرک کی بہادری اور جرات پر بڑی روشنی پڑتی ہے۔ ایک  
 روز وہ خندق کے پاس کھڑا تھا کہ دشمن کی ایک توپ کے گولے  
 اُس کے پاس آ کے پڑنے لگے۔ مگر اس نے ذرا بھی پروا نہ کی۔  
 اُس کے ماتحت افسروں نے کہا کہ یہاں کھڑا ہونا صحیح نہیں۔ آپ  
 کی زندگی خطرے میں ہے۔ آپ کو یہاں سے ہٹ جانا چاہئے۔ یہ  
 سن کر کمال نے جواب دیا۔ اگر میں اب یہاں سے ہٹ جاؤں تو میری  
 فوج کے سپاہی اپنے دل میں کیا کہیں گے۔ افسر کو اپنے ماتحتوں کے

لئے مثال قائم کرنی چاہئے +

اس کے بعد مصطفیٰ کمال کو روسی محاذ پر بھیجا گیا۔ قدرت بہادر کا ساتھ دیتی ہے۔ انہی دنوں روس میں زار کی حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اُس نے کئی علاقے روسیوں سے واپس لئے۔ ابھی وہاں سے پوری طرح فراغت نہ ہوئی تھی کہ مصطفیٰ کمال کو شاہ کے محاذ پر روانہ کر دیا گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے فوجی وزارت کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے اور اسے طویل رخصت مل گئی۔ ۱۹۱۸ء میں جبرنی اور روس کے ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ اور عارضی صلح کی شرطوں کے مطابق ترکی فوجیں غیر مسلح کر دی گئیں۔ ترکی کی ساری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور ترکوں کے پاس یورپ اور ایشیا کا حقوڑا سا علاقہ باقی رہ گیا۔ اتحادیوں نے یہ فرض کر لیا، کہ ترکی اب کوئی دن کا مہمان ہے۔ اور انہوں نے اس سلطنت کو آپس میں بانٹنا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے قسطنطنیہ پر عارضی طور سے قبضہ کر لیا۔ کچھ علاقے اٹلی اور فرانس نے ہتھیائے۔ یونانیوں کو ان کی خدمات کا صلہ دینا بھی ضروری سمجھا۔ چنانچہ ان کو سمیرنا پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یونانی فوج برطانوی، فرانسیسی، امریکی جنگی جہازوں کے ساتھ سمیرنا پہنچی اور ساحل پر اترنے کے بعد فوراً ہی قتلِ عاصم اور غارت گری شروع کر

دی۔ سمیرنا کے بعد یونانی آگے بڑھے، اور مکانات کو آگ لگاتے لوٹ  
 مار کرتے اور عورتوں کی بے عزتی کرتے ہوئے دُور دُور تک پھیل گئے۔  
 اس وقت مصطفیٰ کمال اناطولیہ پہنچ گیا، اور اسے دیکھ کر خوشی  
 ہوئی کہ ترکی قوم سو نہیں رہی۔ اس میں وطنیت کا جذبہ ابھی فنا نہیں  
 ہوا۔ لوگ سرفروشی کے لئے تیار ہیں۔ اور جبکہ جبکہ وطن کی آزادی کی  
 خاطر انجمنیں بن رہی ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے ان حالات سے فائدہ اٹھاتے  
 ہوئے فوجی تنظیم شروع کر دی۔ لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کیا۔ ان کو  
 اتفاق و اتحاد کے رشتے میں جوڑا۔ ٹوٹی پھوٹی توپوں اور ناقص ہتھیاروں  
 کی مرمت کی۔ قوم نے بھی جنگ آزادی کے لئے مصطفیٰ کمال کو اپنا  
 لیڈر چن لیا۔ اور اس جنگ آزادی کا مرکز انکوره (القرہ) بنا۔  
 اس نے میں اناطولیہ کی ترکی فوج جو جنرل کاظم قرہ بکر پاشا کے  
 ماتحت تھی کمال انازک سے آئی، جس سے اسے بڑی تقویت پہنچی۔  
 اس کے علاوہ ترکوں کے بڑے بڑے جرنیل بھی مختلف گوشوں سے  
 بھاگ کر اناطولیہ پہنچ گئے۔ ان میں رزف بے، عصمت پاشا، اور  
 فوزی پاشا بڑے مشہور تھے۔

یونانی فوجیں سمیرنا پر قبضہ کرنے کے بعد اندرونی علاقے کی  
 طرف بڑھ رہی تھیں۔ ان کی تعداد تین لاکھ سے کم نہ تھی۔ اور یہ نئے

ہتھیاروں اور فوجی سامان سے پوری طرح مسلح تھیں۔ یونانی اپنی اہم  
 کامیابی کے نشے میں بڑھتے بڑھتے انگورہ سے چالیس چاس میل  
 رہ گئے۔ ان کے تین لاکھ سپاہی ستر میل مجاذ جنگ پر پھیل گئے

مصطفیٰ کمال ذرہ بھی ہر اس سال نہ ہوا۔ اس نے بھی خفیہ طور سے  
 پوری طرح تیاری کر رکھی تھی۔ انگورہ کے قریب ہی بڑی زبردست جنگ  
 ہوئی۔ اس کو جنگ ستاریہ کہتے ہیں۔ ستاریہ ایک دریا ہے جو سمرنا کے  
 پہاڑی علاقے میں شور مچاتا بہتا چلا جاتا ہے۔ کوئی اکیس روز لڑائی  
 ہوتی رہی، اور آخر بائیسویں روز اس کا فیصلہ ہو گیا۔

یہ جنگ دنیا کی دس بڑی جنگوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے  
 مصطفیٰ کمال کی غیر معمولی جنگی قابلیت اور ترک سپاہیوں کی بہادری سے  
 یونانیوں کو سخت شکست ہوئی۔ ایسی شکست کہ پھر ان کے پاؤں کہیں  
 نہ جم سکے، اور انہیں ہمیشہ کے لئے سمرنا سے نکلتا پڑا۔

اس عظیم الشان فتح سے ترکوں کے جوصلے بڑھ گئے مگر دشمنوں  
 اور خاص کر انگریزوں کو سخت پریشانی ہوئی۔ انہوں نے چاہا کہ کسی طرح  
 مصطفیٰ کمال کو ان کی کوششوں میں ناکام رکھیں۔ چنانچہ ان کے  
 کہنے سے سلطان نے مصطفیٰ کمال کو دار الخلافہ میں طلب کیا۔ مگر ان  
 نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھی اس پر بہت زور ڈالا گیا۔ لہذا

دیا گیا۔ ڈرایا دھمکایا گیا۔ مگر وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ اگر وہ سلطان کے پاس گیا، تو کبھی اناطولیہ واپس نہ آسکے گا۔ اس حکومت کو جو اتحادیوں کے رحم و کرم پر تھی، اور ترکوں کی جنگ آزادی کے خلاف تھی، ختم کرنے کے لئے سید اس میں مجلس منتظر کی گئی جس میں مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی شریک ہوئے۔ یہاں فیصلہ ہوا کہ ترکی میں بادشاہت کی بجائے جمہوری نظام قائم کیا جائے چنانچہ جمہوریہ ترکیہ کا اعلان ہوا اور مصطفیٰ کمال کو اس کا پہلا صدر مقرر کیا گیا۔

اس اعلان کو سنتے ہی سلطان کی طرف سے پھر مخالفت کی گئی۔ مصطفیٰ کمال کو باغی قرار دیا گیا۔ مگر آزادی کی تحریک برابر جاری رہی۔ مصطفیٰ کمال کی طاقت کو دیکھ کر اٹلی اور فرانس خود بخود ترکی کے علاقوں سے رخصت ہو گئے۔ اور آخر میں اتحادیوں نے بھی قسطنطنیہ خالی کر دیا۔ اور اس طرح سارا ملک مصطفیٰ کمال کے قبضے میں آ گیا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد مصطفیٰ کمال نے ملکی انتظام کی طرف توجہ کی۔ اور اپنی انتھک کوششوں سے ترکی کو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے برابر کھڑا کر دیا۔ اس کی فتوحات بھی حیرت انگیز تھیں۔ اور اس کا یہ کارنامہ بھی حیرت انگیز ہے۔

اُس نے پندرہ سال کی مدت میں اپنے ملک کو کیا سے کیا بنا دیا۔ جبکہ جبکہ سکول کھل گئے۔ کالج قائم ہو گئے، جن میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں پڑھنے لگے۔ پڑانی سرطکوں اور ٹپوں کی مرمت کرا دی گئی۔ اور نئی سرطکوں کا ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک جال بچھ گیا۔ تجارت اور صنعت و حرفت کو ترقی دینے کے لئے سینکڑوں کارخانے بنائے جن میں ضرورت کی چیزیں تیار ہونے لگیں اور ترک بیرونی ملکوں کے محتاج نہ رہے۔ اُس نے انقرہ سے چھوٹے سے قصبہ کو وہ ترقی دی کہ آج اس کا شمار دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ یونان، بلغاریہ اور بلقان کی دوسری ریاستوں میں کئی ترک خاندان آباد تھے جن کے افراد کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی تھی۔ مصطفیٰ کمال نے ان سب کو ترک کی واپس بلا لیا۔ ان کا بسا کر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مگر اُس نے ایسا انتظام کیا کہ انہیں ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کہ ان لوگوں کے دلوں سے کمال کے لئے کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی؟

ترکی کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو لوگ بھی اس نامور مجاہد سے ملے ہیں، انہوں نے بتایا ہے، کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

حسرت اور عقیدت تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ دُنیا نے ایسا عظیم الشان  
 نسان ابھی تک پیدا نہیں کیا اور نہ کر سکے گی۔  
 ملکی کاموں کی کثرت نے مصطفیٰ کمال کی صحت پر بڑا اثر کیا تھا  
 ۱۹۳۸ء میں اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ اور ڈاکٹروں کی کوشش کے  
 وجود کچھ عرصہ کے بعد اس مجاہد کا انتقال ہو گیا۔ میت کو شاہی  
 باس پہنا کر تین دن تک کھلے تابوت میں رکھا گیا تاکہ لوگ آخری  
 بار چہرہ دیکھ سکیں۔ تیسرے دن تابوت اٹھایا گیا۔ تقریباً پانچ لاکھ  
 نسان جنازے کے ہمراہ تھے۔ دُنیا کی تمام حکومتوں کے نمائندے  
 اور سفیر بھی شریک تھے۔ لوگ زار و قطار روتے جا رہے تھے۔ عورتیں  
 چلا چلا کر کہہ رہی تھیں "اتا ترک! آپ کہاں ہیں؟" میت دفنانے  
 کے بعد تین منٹ تک ٹک بھریں خاموشی منائی گئی۔  
 ترک مصطفیٰ کمال کو اتا ترک یعنی اپنا باپ کہہ کر پکارتے  
 تھے۔ اور کیوں نہ پکارتے۔ اُس نے اُن میں نئی رُوح اور نئی  
 زندگی پیدا کر دی تھی۔ وہ کہتے ہیں اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ  
 اتا ترک مصطفیٰ کمال مرا نہیں زندہ ہے۔ اس کے کام زندہ ہیں۔  
 اس کی پالیسی زندہ ہے۔ اور وہ ترکی قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ  
 رہے گا!

صحبت پیر و موم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش

لاکھ حکیم نکتہ رس ایک حکیم سیرت

اقبال



مسلمان  
سپہ سالار اور فاتح

حصہ دوم

سید محمد نصیر جامعی

اسٹیشن پبلشرز چوک انارکلی لاہور